

عدالتی تنسیخ نکاح کا شرعی حکم

مولانا محمد زاہد ☆

ہمارے ہاں عورت کی درخواست پر تنسیخ نکاح کا جو قانون مرочح ہے۔

(The Dissolution of Muslim Marriage Act 1939) اس کی متعدد شقیں خلاف شریعت ہیں یا کم از کم فقه حنفی کے خلاف ہیں جس پر پاکستان کے مسلمانوں کی واضح اکثریت عمل پیرا ہے۔ ایسی صورت میں حال بکثرت پیش آتی ہے کہ عدالت کسی مقدمے میں اسکی بنیاد پر تنسیخ نکاح کا فیصلہ کر دیتی ہے جسے فقه حنفی میں فتح نکاح کی بنیاد تسلیم نہیں کیا گیا اور حنفی مفتی نکاح فتح نہ ہونے کا فتوی دے دیتا ہے۔ عدالتی فیصلے اور فتوی میں تعارض کی وجہ سے متعلقہ فریقیوں کے لیے بہت سی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں جبکہ خود فقه حنفی کا یہ قاعدہ ہے کہ مجتهد فیہ اجتہادی مسائل میں قاضی کا فیصلہ موجب رفع نزاع کی بناء پر نافذ ہوتا ہے، خود فقه حنفی کے اصول کے مطابق فریقین اس فیصلے پر عمل کے پابند ہو جاتے ہیں۔ اب ایک طرف تو یہ ضرورت ہے کہ مجتهد فیہ مسائل میں قضاۓ قاضی کے نافذ ہونے کے اصول کی تنقیح کر کے یہ دیکھا جائے کہ اس قاعدے کے اطلاق کے لیے فقهاء حنفیہ نے جو شرطیں لکھی ہیں موجودہ حالات میں ان کی فقہی حیثیت کیا ہے، دوسری طرف مرجوہ قانون میں فتح نکاح کے لیے جن بنیادوں (Grounds) کا ذکر کیا گیا ہے ان کا اس نقطے نظر سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ان میں سے کون سی فقه حنفی کے مطابق ہیں، کون سی ایسی ہیں جو فقه حنفی کے مطابق تو نہیں البتہ وہ مجتهد فیہ مسائل کے دائرے میں آتی ہیں اور بعض مسلم ائمہ مجتہدین کے نزدیک ان کی بنیاد پر نکاح فتح کیا جا سکتا ہے اور کون سی وجودہ شریعت کے بالکلیہ خلاف ہیں اور ان میں کسی مسلم نجی یا حاکم کا فیصلہ بھی شرعاً کالحدم ہوگا۔

ای ضرورت کے پیش نظر چند طالب علمانہ گذارشات اہل علم کی خدمت میں غور و فکر کے لیے پیش کی جا رہی ہیں جن کی حیثیت مخفی تجویز کی ہے باقاعدہ فتویٰ نہیں۔ اس تحریر میں بیانی طور پر تین امور زیر بحث لائے گئے ہیں:

۱۔ مجتهد فیہ مسئلہ میں قضاۃ قاضی یا حکم حاکم کے نافذ اور رافع نزاع ہونے کے اصول کی تتفقیع۔

۲۔ مسئلہ مجتهد فیہ کیسے بنتا ہے۔

۳۔ قانون انسانخ نکاح مسلمان (۱۹۳۹ء) کی اہم شروتوں کا مندرجہ بالا اصولوں کی روشنی میں جائزہ۔

مجتهد فیہ مسئلہ میں جب قاضی کسی بھی قول کے مطابق فیصلہ کر دے تو وہ فیصلہ نافذ اور رافع نزاع ہوتا ہے، اگرچہ وہ متعلقہ فریقوں یا ان میں سے کسی کی رائے اور اجتہاد یا اس فقہ کے خلاف ہو جس کی وہ تقلید کرتا ہے، رافع نزاع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جن اشخاص پر یہ فیصلہ قانوناً لاگو ہوگا ان کے عمل کی حد تک گویا یہ مسئلہ اختلافی رہا ہی نہیں بلکہ اس کے لیے ایک جانب معین ہو گئی ہے۔ یہ اصول فقہ حنفی میں بھی موجود ہے اور دوسری فہریوں میں بھی، چنانچہ فقہ حنفی کی معروف کتاب ہدایہ میں ہے:

والأصل أن القضاء متى لافقى لفصل مجتهد الله ينفذ ولا يردد غيره، لأن

اجتہاد الثاني کاجتہاد الأول وقد ترجیح الأول باتصال القضاء به فلا ينتقض

بما دونه.

اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ قضاۃ جب مجتهد فیہ مسئلہ میں صادر ہو تو وہ نافذ ہو جائے گی اور دوسرا (اس کے برابر کے درجے کا) قاضی اسے فتح نہیں کر سکتا، اس لیے کہ دوسرے کا اجتہاد پہلے کے اجتہاد کی طرح ہے (یعنی اجتہاد ہونے میں دونوں برابر ہیں اور خطا و صواب ہونا امر اضافی ہے) اور پہلے اجتہاد کے مطابق قضاۃ ہو چکی ہے اس کی وجہ سے اسے ترجیح ہوگی۔

مالکیہ کے نزدیک عدت کے اندر نکاح کر کے جماعت کر لینے کی صورت میں مرد و عورت کے درمیان حرمت موبدہ ثابت ہو جاتی ہے۔ اس مسئلے پر معروف مالکی فقیہ علامہ

صاوی فرماتے ہیں:

فلورفت المسالۃ لشافعی او حنفی و حکم بعدم تابید التحریم لرفع الخلاف

کما ہو معلوم۔^(۲)

یعنی مذکورہ صورت میں اگرچہ مالکیہ کے نزدیک حرمت موبدہ ثابت ہو جاتی ہے لیکن اگر یہ مسئلہ کسی حنفی یا شافعی قاضی کے سامنے پیش کیا جائے اور وہ حرمت نہ ہونے کا فیصلہ کر دے تو مالکیہ کے مذهب پر یہ فیصلہ نافذ ہو گا۔

روجین میں اختلاف رائج ہونے کی صورت میں جو دو حکم بنائے جاتے ہیں انہیں اپنے فیصلہ کی قاضی سے توثیق کرنا مالکیہ کے ہاں ضروری تو نہیں ہے البتہ اگر یہ اپنا فیصلہ قاضی کے سامنے پیش کر دیں تو اس کی توثیق کر دینی چاہیے، اس توثیق کا فائدہ بیان کرتے ہوئے زرقانی، مختصر خلیل کی شرح میں فرماتے ہیں:

ولما جرى خلاف فى رفع حكم الحكيمين الخلاف واتفق على أن حكم

الحاكم يرفعه ظهرت فائدة تنفيذه ليصير رافعاً الفاقا۔^(۳)

مذکورہ عبارت کا حاصل یہ ہے کہ ثالتوں کا فیصلہ رافع نزاع ہو گا یا نہیں اس میں تو اختلاف ہے، حکم حاکم کے رافع نزاع ہونے میں اختلاف نہیں۔ قاضی سے توثیق کرنے کا فائدہ یہ ہو گا کہ یہ فیصلہ بالاتفاق رافع نزاع بن جائے گا۔

اسی طرح فقه شافعی کے معروف متن "المهدب" میں یہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہ شرعاً مقررہ مقدار سے زائد زکوة وصول کرنے کا حکومتی اقدام کا عدم اور بے اثر ہو گا، ایک صورت کا استثناء کیا ہے وہ یہ کہ حکومت کی طرف سے زائد وصولی تاویل کے ساتھ ہو، اس کی مثال یہ دی ہے کہ مالکی مذهب کے مطابق چھوٹی بکریوں میں سے بڑی بکری لے لی جائے، اس استثناء کی وجہ ان لفظوں میں بیان کی ہے:

لأنه سلطان فلا ينقض عليه ما فعله باجتهاده۔^(۴)

اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے علامہ نووی فرماتے ہیں:

لأنه مجتهد فيه۔^(۵)

درج بالا قاعدے کی ایک بنیاد حضرت عمرؓ کا اثر بھی ہے کہ ایک دفعہ میراث کے

ایک مسئلے میں انہوں نے ایک فیصلہ فرمایا۔ کسی نے عرض کیا کہ گزشتہ سال آپ نے اسی
جیسے مسئلے میں اس کے برعکس فیصلہ فرمایا تھا، اس پر حضرت عزّ نے ارشاد فرمایا:
تلک علیٰ ما قضینا و هذا علیٰ ما قضینا۔^(۲)

اب قابل غور بات یہ ہے کہ قضاۃ قاضی کو جو رافع خلاف کہا گیا ہے اس کی کچھ
شرطیں بھی ہیں یا نہیں، اگر یہ قاعدہ شروط ہے تو وہ شرائط کون کی ہیں، اس امر کا جائزہ
فقہ خنی کی روشنی میں لیا جا رہا ہے۔

فقہ خنی میں اس قاعدے کے متعلق جو شرطیں ذکر کی گئی ہیں وہ اجمالاً یوں ہیں:

- ۱۔ قاضی مجتهد ہو تو اپنے احتماد کے مطابق اور اگر مقلد ہو تو جس فقہ کا وہ مقلد ہے اس
میں صحیح قرار دیے گئے قول کے مطابق فیصلہ کرے۔
- ۲۔ بعض نے قاضی کے مجتهد ہونے کی شرط بھی لگائی ہے۔
- ۳۔ قاضی کو اس مسئلے کے مجتهد نیہ ہونے کا علم ہو۔

پہلی شرط

مجتهد نیہ مسئلہ میں فیصلہ کرنے والا قاضی اگر مجتهد ہو تو اپنی رائے کے خلاف فیصلہ نہ
کرے اور اگر مقلد ہو تو اپنے مذہب کے خلاف فیصلہ نہ کرے، اگر اپنی رائے یا مذہب
کے خلاف فیصلہ کر دیا تو صاحبین کے نزدیک مطلقاً غیر نافذ ہوگا خواہ اس نے یہ فیصلہ عاماً
کیا ہو یا نہیا، امام صاحب کے مذہب کی تفصیل یہ ہے کہ اگر یہ فیصلہ نایا کیا ہے تو ایک
ہی روایت ہے کہ نافذ ہو جائے گا، عمد کی صورت میں دو روایتیں ہیں، ایک نفاذ کی دوسری
عدم نفاذ کی، عموماً فتویٰ صاحبین کے قول پر دیا گیا ہے اگرچہ بعض حضرات نے مطلقاً نافذ
ہونے کو بھی مفتی ہے قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں چند عبارات ملاحظہ ہوں۔ ہدایہ میں ہے:

وعندهما لا ينفذ مطلقاً لأنه قضى بما هو خطأ عنده و عليه الفتنى^(۴)

در مختار میں ہے:

(لا ینفذ مطلقاً) ناسیاً او عامداً عندهما والاتمة الثالثة (و به یفتی) مجمع

ووقایة و ملتقي و قيل بالتنفيذ یفتی.^(۵)

قاضی مقلد کے بارے میں درختار میں ہے:

بل المقلد متى خالف معتمد مذهبہ لا ینفذ حکمہ و ینقض، هو المختار
(للفتوی).^(۹)

جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ قاضی کا اپنی رائے کے خلاف فیصلہ اگر نیان کی وجہ سے ہو تو امام صاحب کے ہاں نافذ ہو جائے گا اور عامداً ہونے کی صورت میں دو روایتیں ہیں۔ ان میں سے صحیح اور اظہر اس روایت کو قرار دیا گیا ہے جس کے مطابق یہ فیصلہ نافذ ہو گا، بعض حضرات نے اسے مفتی بھی قرار دیا ہے، چنانچہ جامع الفصولین میں ہے: ولو مجتهدًا فحكم برأى غيره ناسياً قال أبو حنيفة نفذ كذا عمدہ عنده في الصحيح ولم ینفذاه لزعمه و بقولهما يفتح و قيل بقوله.^(۱۰)

آخر الرائق میں ہے:

واختلف الترجيح، ففى الخانية: أظهر الروایتين عن أبي حنيفة نفاذ قضائه و
عليه الفتوی اه وهكذا فى الفتاوی الصغری.^(۱۱)

جب کسی مسئلے میں امام ابو حنیفہ "اور صاحبین کا اختلاف ہو جائے تو عموماً فتوی امام صاحب کے قول پر ہی قرار دیا جاتا ہے، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں بیشتر متاخرین نے صاحبین کے قول کو کیوں ترجیح دی ہے، اس کا جواب این الہام کی درج ذیل عبارت سے ملتا ہے۔

والوجه فی هذا الزمان أن یفتح بقولهما، لأن التارک لمذهبہ عمدًا لا یفعله إلا لهوی باطل لا لقصد جميل، وأما الناسی فلأن المقلد ماقلدہ إلا لیحکم بمذهبہ لا بمذهب غیره، هذا کله فی القاضی المجتهد، فاما المقلد فاما ولاه لیحکم بمذهب أبي حنيفة مثلاً، فلا یملک الخالفة فیكون معزوًلاً بالنسبة إلى ذلك الحکم.^(۱۲)

اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ مقلد کا اپنے مذهب کے خلاف فیصلہ اس لیے نافذ نہیں ہو گا کہ اسے اختیارات ہی اس شرط کے ساتھ دیے گئے ہیں کہ وہ اپنے امام کے مذهب کے مطابق فیصلہ کرے۔ دوسرے قول کے مطابق فیصلہ کر کے وہ اپنے اختیارات

سے تجاوز کا مرکب ہوا اور اپنے دائرہ تولیت سے نکل گیا ہے، باقی جہاں تک مجتہد کا تعلق ہے تو اگر وہ جان بوجھ کر اپنے اجتہاد کے خلاف فیصلہ کرتا ہے تو اس کا مختار سوائے اتباع ہوئی کے اور کچھ نہیں ہو سکتا اور اگر وہ نیسان کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو بھی جب کسی مجتہد کو قاضی بنا لیا جاتا ہے تو عملہ یہ شرط ہوتی ہے کہ وہ اس رائے کے مطابق فیصلہ کرے جو اس کے دینات دارانہ اجتہاد کی رو سے درست معلوم ہوتی ہے۔ اس کے خلاف فیصلہ درحقیقت اس کے دائرہ اختیار سے بھی باہر ہے اس لیے وہ نافذ نہیں ہوگا (امام ابو حنیفہ^{۱۴}) کے قول کے مطابق اسے اس کے اجتہاد کی تبدیلی پر محول کیا جا سکتا ہے۔ اہن الہمما^{۱۵} کی مذکورہ عبارت فتاویٰ عالمگیریہ میں بھی نقل کی گئی ہے، (۱۶) طحاوی، اور شایی^{۱۷} نے درختار کے حاشیہ میں بھی اسے نقل کیا ہے۔

اہن الہمما کی مذکورہ مفتونو سے قاضی کے قاضی کے خلاف فیصلے کے غیر نافذ ہونے کی دو وجہیں سمجھ میں آئیں، ایک یہ کہ فیصلہ قاضی کے دائرہ اختیار میں بھی نہیں تھا۔ گویا اس فیصلے کی حد تک اس کا قاضی ہونا ہی مسلم نہیں ہے، دوسرے یہ کہ بعض صورتوں میں اتباع ہوئی کے علاوہ اس فیصلے کی کوئی اور توجیہ مشکل ہے۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ موجودہ دور کی عدالتوں کے فیصلے کے نافذ ہونے کا قول ہی قابل ترجیح ہے، ایک تو اس وجہ سے کہ یہ امام صاحب کا قول ہے اور صاحبین کے قول پر فتویٰ دینے کی وجہ عومنا ان عدالتوں میں نہیں پائی جاتی۔ اس لیے کہ یہ عدالتیں کسی خاص فقہ کے مطابق فیصلے کرنے کی پابند نہیں ہوتیں اور ان کے فیصلوں کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ موجودہ قوانین کا مقتضاء ہی یہ ہوتا ہے، دوسرے اس وجہ سے کہ فقہاء نے جس دور میں بات کی ہے اس وقت اپنی رائے یا نمہب کے خلاف فیصلہ کی صورت شاذ و نادر پیش آتی ہوگی، جبکہ آجکل ایسے معاملات کثرت پیش آتے ہیں، دوسرے لفظوں میں ابتداء عام ہے اور عدم نفاذ کا قول لوگوں کے لیے حرج اور تنگی کا باعث ہوگا۔

دوسری شرط

بعض عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ضابطے کی ایک شرط قاضی کا مجتہد ہونا بھی

ہے (جیسا کہ آگے شامی کے حوالے سے علامہ ابن قاسم کا قول آئے گا)۔ اس سلسلے میں تشقیق اور غور کے بعد جو بات سامنے آئی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر قاضی مقلد ایسے قول کے مطابق فیصلہ کرے جو اس کے مذہب میں راجح ہو تو وہ نافذ اور راجح نزاع ہوگا، اس کے عدم نفاذ کا قول کہیں نظر سے نہیں گزرا، اگر وہ ایسے قول کے مطابق فیصلہ کرتا ہے جو اس کے مذہب کی رو سے ضعیف ہو تو اس صورت میں مقلد کی یہ تقاضا نافذ ہوگی یا نہیں، عبارات فقهاء میں دونوں قول ملتے ہیں۔ بعض نفاذ کے قائل ہیں بعض عدم نفاذ کے، اس لحاظ سے یہ کوئی مستقل بحث معلوم نہیں ہوتی بلکہ یہ خلاف مذہب فیصلہ کے نفاذ و عدم نفاذ کی بحث ہی کا حصہ ہے۔ جس پر شرط اول میں گفتگو ہو چکی ہے، لیکن تقاضاء مقلد کے بارے میں بعض حضرات نے چونکہ مستقل گفتگو کی ہے اس لیے اس سلسلے میں چند گزارشات ضروری معلوم ہوتی ہیں۔

قضاء قاضی مجتهد فیہ مسئلہ میں راجح نزاع اور منقوی للقول الضعیف ہوتی ہے۔ یہ ضابط عام کتابوں میں تو مطلق ہے، لیکن محقق ابن الہمام^(۱) اور علامہ قاسم^(۲) وغیرہ نے اس میں شرط لگائی ہے کہ قول ضعیف پر فیصلہ کرنے والا قاضی مجتهد ہو مقلد نہ ہو، چنانچہ رد المحتار میں ہے:

وقال العلامة قاسم في فتاواه: وليس للقاضي المقلد أن يحكم بالضعف، لأنه ليس من أهل الترجيح فلا يعدل عن الصحيح إلا لقصد غير جميل ولو حكم لا ينفذ، لأن قضاة بغير الحق لأن الحق هو الصحيح، وما وقع من أن القول الضعيف يتعقو بالقضاة المراد به قضاة المجتهد كما بين في موضعه.^(۳)

اس عبارت میں علامہ شامی^(۴) نے علامہ قاسم^(۵) کا قول نقل کیا ہے کہ قاضی مقلد کے لیے قول ضعیف پر فیصلہ کرنا درست نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ بیان کی ہے کہ یہ اہل ترجیح میں سے تو ہے نہیں کہ یہ سمجھا جائے کہ اس نے دلیل کی بنیاد پر دوسرے قول کو ترجیح دی ہے، اس لیے اس کے اس فیصلے کا مثلاً کوئی غلط مقصود ہی ہوگا، یہ وہی بات ہے جسے ابن الہمام کی پہلی ذکر کردہ عبارت میں ہوئی باطل (غلط خواہش) کی ابیاع سے تعبیر کیا گیا تھا۔

لیکن ابن نجیم کا رجحان المحررائق میں اس شرط کے نہ ہونے کی طرف ہے، چنانچہ
بازیہ، عمدۃ الفتاویٰ اور سراجیہ وغیرہ کی عبارات نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

لقد تحرر أن القاضى المقلد إذا قضى بمذهب غيره فإنه ينفذ و كذلك إذا قضى
برواية ضعيفة أو بقول ضعيف لإطلاق قولهم إن القول الضعيف يتحقق بقضاء
القاضى، وما قيده به فى لفظ القديرين من أن هذان إنما هو فى المجتهد، ثابت فى
بعض العبارات. (۱۷)

اس عبارت میں قاضی مقلد کے قول ضعیف یا رولیتے ضعیفہ کے مطابق فیصلے کو بھی نافذ
قرار دیا گیا ہے اور وجہ اس کی یہ بیان فرمائی ہے کہ فقہاء نے یہ قاعدہ کہ قضاء قاضی سے
قول ضعیف کو تقویت حاصل ہو جاتی ہے۔ مطلق ذکر کیا ہے اور کوئی شرط نہیں لگائی باقی جو
فتح القدری میں مجتهد ہونے کی شرط مذکور ہے وہ صرف بعض عبارات سے ثابت ہے۔
آگے چل کر صاحب بحر نے قضاۓ قاضی بخلاف مذهبہ کی دو صورتیں بیان کی ہیں:

۱۔ قاضی کا مقصد اپنے مذهب سے ہٹانا نہ ہو، کسی غلط فہمی کی وجہ سے خلاف مذهب فیصلہ
یہ تصور کرتے ہوئے کر دیا کہ میں اپنے مذهب کے مطابق فیصلہ کر رہا ہوں (مشائی)
تحقیق مذهب میں غلطی ہو گئی یا تحقیق واقعہ میں غلطی ہو گئی جیسے محدود فی القذف تائب
کی شہادت پر فیصلہ کر دیا اور اسے اس کے محدود فی القذف ہونے کا علم نہ تھا) تو
اس صورت میں یہ قضاۓ غیر نافذ ہو گی، گویا یہ قضاۓ بذہب الغیر نہیں بلکہ قضاۓ بالخطأ
ہے اس میں قضاۓ قاضی کے باطنًا نافذ ہونے والے مسئلے کی تفصیلات بھی خیش نظر
وہی چاہئیں۔

۲۔ اس کا مقصد ہی دوسرے مذهب کو اختیار کرنا تھا تو اس صورت میں یہ قضاۓ نافذ ہو
جائے گی۔

اس کے بعد صاحب بحر نے فرمایا ہے کہ آج کل (ان کے زمانہ کے) قضاۓ چونکہ
مقلد ہوتے ہیں ان سے یہ توقع ہی نہیں ہوتی کہ انہوں نے اجتہاد کر کے دوسرے قول کو
اختیار کر لیا ہوگا۔ اس لیے آج کل خلاف مذهب فیصلے پہلی قسم میں متصور ہوں گے اور یہ
سبھا جائے گا کہ قاضی نے یہ فیصلہ غلط فہمی میں کیا ہے۔ باقی کی تہذیب کی وجہ سے نہیں۔

بھر کی عبارت جس کا حاصل اور ذکر کیا گیا حسب ذیل ہے:
والحق فی هذا المسألة أن القاضی إذا حکم على خلاف مذهبہ فان كان متوجهما أنه على وقته فإنه باطل يجتب نقضه، وإن والق مجتهدا فيه، وإن كان معتمداً مذهب غيره فإنه لا ينقض، وهذا التفضيل متبع في حکام زماننا، فإنهم لا يعتمدون في أحكامهم على الاجتہاد لا مطلقاً ولا مقيداً لكونهم مقلدين، فإذا جرى منهم الحكم بخلاف مذهبهم فهو مقطوع بكونه منه خطأ فینقض الخ،^(۱۸)

علامہ قاسم کی عبارت جو اس شرط پر گفتگو کے آغاز میں ذکر کی گئی اور ابن نجیم کی اسی ذکر کردہ عبارت میں مشترک بات یہ ہے کہ اس زمانے میں قاضی مقلد سے چونکہ اجتہاد یا غور و فکر کا امکان نہیں ہوتا تھا اس لیے اس کے نیچے کو اس بات پر محبوں نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اس کی رائے بدلتی ہو گئی، اس کے اس نیچے کا منشا علامہ قاسم کی عبارت کے مطابق غلط مقصد کا حصول اور ابن نجیم کی عبارت کے مطابق کوئی غلط فہمی بھی ہو سکتا ہے، اس لیے یہ قضا غیر نافذ ہو گی۔

تیسرا شرط

بعض حضرات نے قضاۓ قاضی کے رافع نزاع ہونے کے لیے یہ شرط بھی ذکر کی ہے کہ قاضی کو فیصلہ کرتے وقت اس مسئلہ کے مجتہد فیہ ہونے کا بھی علم ہو، اگر اس کے مجتہد فیہ ہونے کا علم نہ ہو تو اس کی قضاۓ رافع نزاع نہیں ہو گی۔

اس شرط کے متعلق چیلی بات تو یہ ذہن میں ڈھنی چاہیے کہ اگرچہ اس قول کو ظاہر المذهب قرار دیا گیا ہے لیکن بہت سے حضرات نے راجح اور مرفقی بہ اس کو قرار دیا ہے کہ یہ شرط نہیں ہے، جیسا کہ درج ذیل عبارات سے معلوم ہوتا ہے۔

-- در مختار میں ہے:

عالما باختلاف الفقهاء فيه، فلو لم يعلم لم يجز قضاوه ولا يمضيه الثاني في ظاهر المذهب، زيلعى و عينى و ابن كمال ولكن فى الخلاصة و يفتى بخلافه

وكانه تيسيراً۔^(۱۹)

اس میں خلاصہ الفتاویٰ کے حوالہ سے نقل کیا گیا ہے کہ فتویٰ اس شرط کے نہ ہونے کا دیا جائے گا اور صاحب دریغہ نے اس کی وجہ تيسیر کو قرار دیا ہے، لیکن لوگوں کی سہولت اس میں ہے:

-- علامہ طحاوی فرماتے ہیں:

ورجح غير واحد أنه ليس بشرط، فينفذ على المخالف علم القاضي بالخلاف في المسألة ألم يعلم، أقول: ينبغي عدم اشتراط العلم بالخلاف، لاسيما في زماننا لا معرفة لهم بمذاهبهم فضلاً عن علمهم بمذاهب بقية المجتهدين.^(۲۰)

-- فتاویٰ عالیکریہ میں ہے:

وفي الخلاصة أن هذا الشرط يعني كونه عالماً بالاختلاف وإن كان ظاهر المذهب لكن يفتقى بخلافه^(۲۱)

-- فتاویٰ عالیکریہ ہی میں دوسری جگہ ہے:
وان لم يعرف مواضع الاجتہاد والاختلاف فعن نفاذ قضائه روایتان، والأصل أنه ينفذ كذا في خزانة المفہومين.^(۲۲)

پھر جن لوگوں کے نزدیک قاضی کا مسئلہ کے مجتہد فیہ ہونے سے واقف ہونا ضروری ہے ان کے نزدیک بھی یہ شرط قاضی مجتہد کے بارے میں ہے مقلد کے بارے میں نہیں اور مجتہد کے بارے میں بھی یہ شرط اس صورت میں ہے جبکہ وہ فیصلہ اپنی سابقہ معروف رائے کے خلاف کرے، اگر فیصلہ اپنی سابقہ رائے کے مطابق کرے تو یہ شرط نہیں ہے، اصل میں یہ شرط بھی اس بات کا یقین کرنے کے لیے ہے کہ اس مسئلے میں قاضی کی واقعی رائے بدلتی ہے، اگر وہ فیصلہ اپنی سابقہ رائے سے ہٹ کر کرتا ہے اور اسے مسئلہ کا مجتہد فیہ ہونا معلوم ہے تو سمجھا جائے گا کہ اس کی رائے ہی بدلتی ہے اس لیے یہ فیصلہ نافذ ہوگا، لیکن اگر قاضی مسئلے کو مجتہد فیہ ہی نہیں سمجھتا اور اس کے نزدیک اس مسئلے میں اجتہاد کی ممکنگی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اپنی رائے کے خلاف فیصلے کو تبدیلی رائے پر

محول کرنا مشکل ہے۔ بظاہر یہ فیصلہ کسی اور غلط فہمی کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہی بات علامہ شامی نے ان لفظوں میں بیان کی ہے:

فإذا ظهر أن هذا في قضاء القاضى المجنحه، وأن اعتبار العلم وعدمه إنما هو للدلالة على البقاء على الاجتihad الأول أو تبدل، وأنه لو كان على وفق رأيه نفذ وإن لم يعلم بالخلاف ظهر لك أن اعتبار هذا في القاضى المقلد جهالة فاحشة. (۲۳)

علامہ شامی کی اس عبارت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علم کی شرط کا جن حضرات نے اعتبار کیا ہے ان کے نزدیک اس صورت میں ہے جبکہ وہ قاضی کی رائے کے خلاف ہو، اگر یہ واضح ہو کہ قاضی کی اپنی رائے بھی یہی ہے تو اس کی قضاۓ نافذ ہو گی خواہ اسے مکنے کے مجہد فیہ ہونے کا علم ہو یا نہ ہو۔
ذکورہ بالانفصیل سے پوری صورت حال یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اصل کے اعتبار سے یہ قاعدة مطلق ہے، خود ائمہ مذهب سے اس میں ذکورہ شرطیں مقول نہیں ہیں، چنانچہ امام محمدؐ کی جامع صغیر کی عبارت حب ذیل ہے:

وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ الْفُقَاهَاءُ فَقَضَى بِهِ الْقَاضِيُّ ثُمَّ جَاءَ قَاضِيُّ الْخَرِيرِيِّ غَيْرُ ذَلِكَ أَمْضَاهُ. (۲۴)

-- قدوری کی عبارت یہ ہے:

إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ حُكْمٌ حَاكِمٌ أَمْضَاهُ إِلَّا أَنْ يَخْالِفَ الْكِتَابَ أَوَ السُّنَّةَ أَوَ الْإِجْمَاعَ أَوْ يَكُونَ قَوْلًا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ. (۲۵)

البتہ بعد کے فقهاء نے مخصوص عوارض کی وجہ سے چند شرطیں لگا دی ہیں، ان عوارض کا حاصل دو باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ بعض اوقات قاضی کا فیصلہ خود اس کے دائرہ اختیار سے خارج ہوتا ہے، جیسا کہ خلاف عثمانیہ کے دور میں تمام قاضی قفق خنی کے مطابق فیصلے کرنے کے پابند ہوتے تھے، اس کے خلاف فیصلہ کرنا ان کے دائرہ اختیار سے باہر ہوتا تھا، دوسرے یہ کہ بعض حالات میں یہ ظن غالب ہوتا ہے کہ قاضی نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اس کی اپنی سوچی سمجھی رائے نہیں ہے، این الہام کی عبارت جو مکمل شرط پر گنتگو کے ضمن میں

ذکر کی گئی ہے سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسری بات بھی ہی کی طرف راجح ہے۔ اس لئے کہ اس میں مجتہد کے اپنی رائے کے خلاف فیصلے کو اس وجہ سے غیر نافذ قرار دیا گیا ہے کہ وہ سلطان کی طرف سے اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کرنے کا پابند تھا۔ حاصل یہ کہ مجتہد فیہ سلسلہ میں قضاۓ قاضی کے راضی نزاع ہونے کے لیے نیادی شرطیں دو ہی ہیں:

۱۔ وہ فیصلہ اس قاضی کے دائرہ اختیار میں ہو۔

۲۔ اسکی صورت حال نہ ہو کہ اس فیصلے کی وجہ ابیاع یا غلط فہمی کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہ سکتی ہو، یعنی یہ کہنا مشکل ہو کہ فیصلہ کرتے وقت قاضی کی اپنی دیانت دارانہ رائے ہی یہ تھی۔

یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ آج کل کی عدالتوں کے پیش نظر عموماً صرف یہ بات ہوتی ہے کہ مردجہ قانون کا مقضیا کیا ہے، مسئلہ کے مجتہد فیہ ہونے یا نہ ہونے اور فیصلہ کے شریعت کے موافق ہونے یا نہ ہونے سے عموماً بحث نہیں کی جاتی۔ مولانا اشرف علی تھانویؒ کی عبارت (جس پر اس وقت کے مشاہیر علماء کے دستخط ہیں) سے معلوم ہوتا ہے کہ فیصلہ اس کے باوجود بھی شرعاً معتبر ہوگا، کیونکہ انہوں نے اگریزی حکومت کی طرف سے مقررہ مسلمان جموں کے فیصلوں کے بارے میں بھی صرف ولایت و اختیار اور فیصلے کے موافق شریعت ہونے کا اعتبار فرمایا ہے، مولانا تھانویؒ کی عبارت حسب ذیل ہے:

”ہندوستان کی جن ریاستوں میں قاضی شرعی موجود ہیں وہاں تو معاملہ سہل ہے اور گورنمنٹی علاقوں میں جہاں قاضی شرعی نہیں ان میں وہ حکام نجع مجریہ وغیرہ جو گورنمنٹ کی طرف سے اس قسم کے معاملات میں فیصلہ کا اختیار رکھتے ہیں اگر وہ مسلمان ہوں اور شرعی قاعدہ کے موافق فیصلہ کریں تو ان کا حکم بھی قضاۓ قاضی کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ لما فی الدبر المختار: ویجوز تقلید القضاء من السلطان العادل والجائز ولو کافرا ذکرہ مسکین وغیرہ۔ لیکن اگر کسی جگہ فیصلہ کننے والے حاکم غیر مسلم ہو تو اس کا فیصلہ بالکل غیر معتبر ہے، اس

کے حکم سے فتح دغیرہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لأن الکافر لیس باهل للقضاء على
المسلم كما هو مصرح في جميع كتب الفقه۔ (۲۶)

امر امام بھی رافع نزاع ہے

پھر جس طرح قضاۓ قاضی رافع نزاع ہوتی ہے اسی طرح حکم امام اور امر امام بھی رافع خلاف ہوتا ہے، قضاۓ قاضی کے رافع نزاع ہونے کے لیے تو کچھ شرطیں ذکر کی گئی ہیں جن پر اور تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، امیر امام کے بارے میں جو عبارات نظر سے گزری ہیں۔ ان میں اس طرح کی کوئی شرط مذکور نہیں، قاضی کے اختیارات بھی دراصل امام ہی سے مستفاد ہوتے ہیں اس لیے امام اس سلسلے میں اصل اور قاضی فرع ہو گا، یہ ضروری نہیں کہ جو شرطیں فرع میں ہوں وہ اصل میں بھی لازماً ہوں، اس لیے حکم امام میں یہ شرطیں قضاۓ قاضی پر قیاس کر کے بھی ثابت نہیں کی جا سکتیں۔

حکم امام کے رافع نزاع ہونے کی ایک وجہ فتحاء کی عبارات سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ اولاً امر کی اطاعت واجب ہے جب تک کہ وہ معصیت کا حکم نہ دے اور مجتهد فیہ سلسلہ میں کسی مجتهد کے قول کے مطابق جاری کیے گئے حکم کو معصیت کا حکم دینا نہیں کہا جا سکتا۔ اب اس سلسلے میں چند عبارتیں پیش خدمت ہیں:

(۱) درختار میں ہے:

نعم أمر الأمير متى صادف فصلاً مجتهداً فيه نفذ أمره، كما في سير
الترخانية و شرح السير الكبير فليحفظ۔ (۲۷)

اس سے پہلے صاحب درختار قضاۓ قاضی کے ناذر ہونے کی بعض شرطوں پر گفتگو کر رہے ہیں، اندازِ کلام یہ بتا رہا ہے کہ مذکورہ عبارت ماقبل سے ایک قسم کا استثناء ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قضاۓ قاضی کی شرطوں کا حکم امام میں معتبر ہونا ضروری نہیں ہے۔

(۲) درختار کی مذکورہ عبارت میں فتویٰ تاتارخانیہ کی جس عبارت کا ذکر ہے وہ درحقیقت امام محمدؐ کی عبارت ہے جو علامہ شامی کی نقل کے مطابق حسب ذیل ہے:

قال محمد: وإذا أمر الأمير العسكر بشيء كان على العسكري أن يطعنوه في

ذلک الا ان یکون المامور به معصیۃ بیقین۔ (۲۸)

ان عبارات میں بات اگرچہ امام کی طرف سے مقرر کردہ امیر کی ہو رہی ہے لیکن جب ماتحت امیر کے حکم کی یہ حیثیت ہے کہ جب تک اس کا حکم یعنی طور پر معصیۃ نہ ہو تو اطاعت واجب ہے تو امام اور حاکم عام کے حکم کی بطریق اولی یہ حیثیت ہوگی۔

(۳) فتاویٰ عالجیریہ میں ہے:

لو أن إماماً رأى مشركي العرب فسباهم وقسمهم جاز، وليس للإمام بعد ذلك أن يبطله، لأن هذا موضع الاجتهاد لأن الشافعى يقول بجواز استرقاق مشركي العرب۔ (۲۹)

(۴) فتاویٰ عالجیریہ ہی میں دوسری جگہ ہے:

صورة ماذكر في السير لوزرای إمام من أئمة المسلمين أن يقبل الجزية من مشركي العرب و قبل جاز، لا وان كان هذا خطأ عند الكل لأنه موضع اجتهاد كذلك في الذخيرة۔ (۳۰)

موجودہ صورتی حال کا حکم

ہمارے دور میں جمہوری ممالک کے اندر مقتنه کا فیصلہ تمام آئینی مرحلہ طے کر لیئے کے بعد حکم سلطان ہی میں داخل سمجھا جائے گا، اس لیے کہ سلطان درحقیقت کسی شخص کا نام نہیں ہے بلکہ ان اختیارات اور اختاری کا نام ہے جو پہلے عموماً ایک ہی فرد کی خلیل میں ظاہر ہوتی تھی، اب وہ مقتنه، عدیلہ اور انتظامیہ کے الگ الگ اداروں میں تقسیم ہو گئی ہے، اس لیے جو حکم ملک میں قانون کی حیثیت رکھتا ہو وہ حکم سلطان ہوگا اور حدود شریعت کے اندر نافذ ہوگا، خواہ وہ کسی ادارے کی طرف سے ہو، جیسے ہمارے ہاں پارلیمنٹ کے منظور کردہ قوانین یا فرد کی طرف سے جیسے ہمارے ہاں محدود مدت کے لیے صدارتی آرڈر نہیں۔

ہمارے ہاں عدالتیں جو فیصلے کرتی ہیں وہ دو طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک وہ فیصلے جن میں عدالت اس کے خلاف فیصلہ کرنے کی قانونی مجاز ہی نہیں تھی، دوسرے وہ قضاۓ جن میں عدالت کی صوابیدیہ کو بھی دلیل ہوتا ہے۔ قانون کی رو سے وہ کسی خاص فیصلے کی پابند نہیں ہوتی۔

ہمارے ہاں جوں کی تقریب اس شرط پر ہوتی ہے کہ وہ مخفیت کے احکامات کی پابندی کرے اور اس کے دائرہ سے نہ لٹکے۔ اب اگر قانون کی بعض دفعات ایک فقه کے مطابق ہیں اور بعض دوسری کے، تو گویا تقلید و تولیت ہی میں اسے پابند کر دیا گیا ہے کہ فلاں مسئلے میں فلاں قول پر فیصلہ کرنا ہے اور فلاں میں فلاں پر، اب عدالت کا کام صرف صورت واقعہ کی تعین ہے، خاص واقعہ تعین ہو جانے کے بعد وہ خاص حکم سنانے کی پابند ہے، نج اگر اس کی خلاف ورزی کرے گا تو دائرہ اختیار سے نکل جائے گا، اس صورت میں خاص مذہب کے مطابق صرف قضاۓ قاضی نہیں بلکہ حکم امام بھی ہے یعنی تعین و تنقیح واقعہ کی حد تک تو یہ قضاۓ قاضی ہے لیکن تعین و تنقیح واقعہ کے بعد اس کا جو حکم جاری کیا گیا ہے وہ دراصل حکم امام ہے اور اس کے بارے میں یہ فیصلہ نافذ تصور ہو گا۔ قطع نظر قاضی کے اپنے فقہی مذہب یا اس کے مقلد یا مجتہد ہونے کے۔

اگر وہ فیصلہ دوسری نوعیت کا ہے تو اسے قضاۓ قاضی سمجھا جائے گا اور قضاۓ کے نفاذ کی شرط کے ساتھ اسے نافذ تصور کیا جائے گا۔

ہمارے فقہاء نے قضاۓ قاضی کے راجح نزاع ہونے کے لیے ایک شرط یہ بھی ذکر کی ہے کہ وہ قضاۓ خاص واقعہ میں دعویٰ صحیح اور خصوصیت صحیح کے بعد ہو، وگرنہ وہ فیصلہ درحقیقت قضاۓ نہ ہو گا مگر ایک قتوں بن جائے گا، ہمارے ہاں اس شرط کی خلاف ورزی ایک تو قضاۓ علی الغائب کی بعض صورتوں میں پائی جاتی ہے جو مستقل بحث کا متناقضی موضوع ہے، دوسرے بعض علی عدالتوں کے عمومی نوعیت کے فیصلوں میں ایسی صورت ہو سکتی ہے جیسے خیارِ بلوغ کے بارے میں بعض ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ کہ اس حق کے استعمال کی وجہ سے فتح نکاح کے لیے عدالت سے رجوع کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ حق استعمال کرتے ہوئے خود ہی اپنا نکاح فتح کر سکتی ہے، جبکہ فقهِ خنی کی رو سے فتح نکاح کے لیے قضاۓ قاضی کی ضرورت ہے، اگر یہ مسئلہ مجتہد فیہ ہو تو یہ بات قابل غور ہو گی کہ اعلیٰ عدالتوں کے اس عمومی فیصلے کے بعد ہر واقعہ میں خصوصیت اور عدالت کی طرف رجوع کی ضرورت ہو گی یا نہیں، اس پر اس نقطہ نظر سے غور کی ضرورت ہے کہ اعلیٰ عدالت کے اس نوعیت کے فیصلے ماتحت عدالتوں کے لیے ایک قانون کی شیشیت رکھتے ہیں، گویا قانون ہی یہ بنا دیا گیا ہے کہ خیار

بلغ کی وجہ سے فتح نکاح کے لیے عدالت سے رجوع کی ضرورت ہی نہیں، شاید یہ کہنے کی سمجھائش ہو کہ یہ حکم صرف قضاۓ نہیں بلکہ حکم سلطان کی حیثیت بھی رکھتا ہے اس لیے اس میں دعویٰ اور خصوصت کی ضرورت نہیں۔ مسئلے کی تفصیل آگے خیار بلوغ کے مسئلے کے تحت آجائے گی۔

مجتہد فیہ مسئلہ کی تعریف

کوئی مسئلہ مجتہد فیہ کیسے بنے گا، اس کے لیے فقهاء حفیہ کی عبارات میں غور کرنے سے تین اصول سمجھ میں آتے ہیں:

پہلا اصول وہ ہے جو جامع صیر میں امام محمدؐ کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے، جامع صیر کی عبارت یہ ہے:

وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ فَقْضَى بِهِ الْقَاضِي ثُمَّ جَاءَ قَاضٌ أَخْرَى يُرِي غَيْرَ ذَلِكَ

أَمْضَاهُ. (۳۱)

اس عبارت میں اصل معیار فقهاء کے اختلاف کو بنا�ا گیا ہے۔ لہذا جس مسئلے میں فقهاء کا اختلاف ہو وہ مجتہد فیہ ہے، اس میں دلیل کی نوعیت سے بحث نہیں کی گئی۔

دوسرा اصول وہ ہے جو قدوری کی عبارت سے متعین ہوتا ہے، قدوری میں ہے:

إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ حُكْمُ حَاكِمٍ أَمْضَاهُ إِلَّا أَنْ يَخْالِفَ الْكِتَابَ أَوَ السَّنَةَ أَوَ الْإِجْمَاعَ
أَوْ يُكَوِّنَ قَوْلًا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ.

علامہ نعمی صاحب کنز کے الفاظ یہ ہیں:

إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ حُكْمُ قَاضٍ أَمْضَاهُ إِنْ لَمْ يَخْالِفَ الْكِتَابَ وَالسَّنَةَ الْمَشْهُورَةَ

وَالْإِجْمَاعَ. (۳۲)

ان دو عبارتوں میں اصل معیار دلیل کی نوعیت کو بنا�ا گیا ہے۔ قدوری کی عبارت کے مطابق کوئی مسئلہ مجتہد فیہ نہیں سمجھا جائے گا۔ اگر وہ کتاب اللہ، سنت یا اجماع کے خلاف ہو یا وہ قول بالکل بلا دلیل ہو، کنز کی عبارت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سنت سے مراد یہاں سنت مشہورہ ہے، لہذا کوئی قول غیر واحد کے خلاف ہو تو وہ مجتہد فیہ کے دائرہ سے خارج

نہیں ہوگا۔ اسی طرح کتاب اللہ سے مراد بھی بظاہر قطعی الدلالۃ آیت ہے۔ چنانچہ ابن الہمام فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ سے مراد وہ ہے جس کے معنی پر اجماع ہو۔ (۳۳)

اوپر ذکر کردہ دونوں اصولوں میں اکثر دیشتر تعارض نہیں ہوتا۔ یعنی جس مسئلے میں فقهاء کا اختلاف ہوتا ہے تو اس میں کوئی قول بھی بلا دلیل یا کتاب اللہ، سنت مشہورہ کے خلاف نہیں ہوتا، اور چونکہ وہ مسئلے اختلافی ہے اس لیے اجماع کے خلاف ہونے کا تو کوئی تصور نہیں، اسی طرح جس مسئلے میں کتاب اللہ کی قطعی الدلالۃ آیت یا سنت مشہورہ موجود نہ ہو وہاں فقهاء کا عموماً اختلاف ہو ہی جاتا ہے، اس لیے اکثر دیشتر دونوں اصول اپنے اخلاق اور مصدقہ میں ایک دوسرے سے متعارض نہیں ہوتے۔ البتہ بعض مسائل ایسے ہیں جن میں فقهاء کا اختلاف تو ہے لیکن بعض خفیہ نے دوسرے نقطے نظر کو کتاب اللہ یا سنت مشہورہ یا اجماع کے خلاف ہونے کی وجہ سے مجتہد فیہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، ان میں متعدد العسمیہ عاماً اور فضاء نہیں دشایہ کے مسئلے بطور مثال ذکر کیے جا سکتے ہیں، اول الذکر مسئلے میں امام شافعیؓ کا مذہب یہ ہے کہ جس جانور کو ذبح کرتے وقت جان بوجھ کر بھی اللہ کا نام چھوڑ دیا جائے وہ حلال ہے لیکن بہت سے خفیہ نے فرمایا ہے کہ چونکہ امام شافعیؓ کا یہ قول آیت قرآنی ولا تأكلوا ممالم بذکر اسم الله۔ (۳۴)

اور اجماع کے خلاف ہے اس لیے یہ مسئلہ فیہ نہیں ہے۔ اگر کوئی قاضی ایسے ذیجہ کی بیع صحیح ہونے کا فیصلہ کر دے تو وہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، اسی طرح ایک گواہ اور مدعی کی قسم پر فیصلہ کرنے کے جواز کو بھی مجتہد فیہ تسلیم نہیں کیا گیا اس لیے کہ یہ بقول ان حضرات کے یہ حدیث مشہور ”البینة على المدعى واليمين على من انكر“ کے خلاف ہے۔ گویا ان حضرات نے جامع صیر کی عبارت جس میں مدار صرف فقهاء کے اختلاف کو بنا یا گیا ہے مزید کوئی شرط نہیں لگائی گئی کو قدوری کی عبارت کے ذریعے مقید کر کے یہ نقطہ نظر اختیار کیا ہے کہ فقهاء کا اختلاف تب معتبر ہوگا جبکہ کوئی قول کتاب اللہ، سنت مشہورہ یا اجماع کے خلاف نہ ہو، اصول کی حد تک اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے اصل مسئلہ اس کی تطبیق کا ہے، یعنی یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے کہ جس کا قول کتاب اللہ کی قطعی مراد یا سنت مشہورہ کے خلاف ہو اس کا اعتبار نہیں، اور صاحب ہدایہ کی تعبیر کے مطابق یہ خلاف ہے

اختلاف نہیں۔ لہذا اس سے مسئلہ مختلف فیہ بنا ہی نہیں، لیکن اس بات کا فیصلہ کہ یہ قول واقعی کتاب اللہ یا سنت مشہورہ کے خلاف ہے بہت مشکل ہے، کم از کم ائمہ اربعہ کی حد تک یہ ضرور کہنا ہوگا کہ کسی مسئلے میں ان کا اختلاف ہو جانے کے بعد یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کتاب اللہ یا سنت مشہورہ کے خلاف ہے یا نہیں۔ خاص طور پر جبکہ ان ائمہ کے تبعین جن میں بڑے بڑے فقہاء اور اجتہاد کے مختلف درجات پر فائز شخصیات بھی ہیں بھی اس قول کو اختیار کرتے چلے آ رہے ہوں، ان حضرات کا اس مسئلے میں اختلاف کرنا ہی اس بات کی کافی دلیل ہے کہ یہ قول کتاب اللہ یا سنت مشہورہ کے واضح طور پر خلاف نہیں ہے اور یہ کہ اس مسئلے میں واقعی اجتہاد کی منجاش تھی۔

حقیق ابن الہام نے اسی نقطہ نظر کی پُر زور تائید کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ دیکھنے کی صورت بات یہ ہے کہ یہ حضرات مجتہد ہیں یا نہیں، اگر یہ مجتہد ہیں تو ان کے اختلاف کی صورت میں مسئلہ کے مجتہد فیہ ہونے میں تک نہیں ہونا چاہیے اور اگر کوئی انہیں مجتہد ہی تسلیم نہ کرے تو اور بات ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ دوسری رائے کسی کی نہیں ہو سکتی۔ بلکہ یقیناً یہ حضرات مجتہد ہی نہیں بلند مرتبہ مجتہد ہیں۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کسی مسئلے میں مشائخ حنفیہ کے اختلاف کی وجہ سے اسے مجتہد فیہ قرار دے دیا جاتا ہے، تو ان ائمہ کا اختلاف مسئلے کو مجتہد فیہ بنانے کے لیے کیوں کافی نہیں ہوگا، اب ان الہام کی عبارت حسب ذیل ہے:

وعندی أن هذلا لا يغول عليه، فإن صبح أبا مالكا وأبا حنفية والشافعى
مجتهدون فلاشك في كون الم محل اجتهاديا، وإن فلا، ولا شك أنهم أهل
اجتهاد ورقة، ولقد نرى في أثنا المسائل جعل المسئلة اجتهادية بخلاف
بين المشائخ حتى ينفذ القضاء بأحد القولين فكيف لا يكون كذلك إذالم
يعرف الخلاف إلا بين هؤلاء الأئمة. (۳۵)

نقید آبواللیث سرقسطی نے بھی اسی بات کو اختیار فرمایا ہے کہ قضاء کے تاقد ہونے کے لیے اس مسئلے کا فقہاء میں مختلف فیہ ہونا کافی ہے۔ (۳۶)
جن مسائل کو ائمہ اربعہ میں مختلف فیہ ہونے کے باوجود بعض حنفیہ نے مجتہد فیہ تسلیم

نہیں کیا ان میں سرفہرست متذکر الحسیہ عامداً کا مسئلہ ہے کہ یہ امام شافعیؓ کے ہاں جائز ہے (بشرطکہ بسم اللہ چھوڑنا اختلاف اور تہاون کے طور پر نہ ہو) امام شافعیؓ کے اس قول کو خلاف اجماع ہونے کی وجہ سے مجتہد فی تسلیم نہیں کیا گیا، لیکن حاکمین حنفیہ میں سے علامہ آلویؓ نے اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اگر اس مسئلے میں واقعی اجماع ہوتا تو امام شافعیؓ اس کی مخالفت نہ کرتے، وہ فرماتے ہیں:

والحق عندي أن المسألة اجتهادية و ثبوت إلإجماع غير مسلم، ولو كان
ما خرقه الإمام الشافعى رحمة الله. (۳۷)

بعض حضرات کا یہ قول نقل کرنے کے بعد کہ امام شافعیؓ کا یہ قول فخش غلطی ہے اس لیے کہ یہ سات قرآنی آیات کی مخالفت ہے، علامہ آلویؓ فرماتے ہیں کہ یہ بات بذات خود اس امام کے حق میں فخش غلطی اور ان کے علم و فضل اور دقیق نظر سے ناداقیت کی دلیل ہے اور آخر میں فرماتے ہیں:

وبالجملة الكلام في الإية واسع المجال وبها استدل كل من أصحاب
هاتيك الإقوال. (۳۸)

در اصل سب سے پہلے حضرت خصافؓ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ صرف صحابہ و تابعین کا اختلاف ہی معتبر ہے، بعد کے حضرات کا اختلاف معتبر نہیں، انہی کی اتباع میں دوسرے متعدد فقهاء حنفیہ نے بھی اس بات کو اختیار کر لیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دین میں اصل اہمیت امت کی طرف سے تلقی بالقبول کو حاصل ہے اور یہی تلقی بالقبول ہے جس کی وجہ سے ایک خبر واحد کو بھی حدیث مشہور یا متواتر کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اور ان ائمہ کا طرہ امتیاز ہی یہ ہے کہ ان کا درجہ اجتہاد پر فائز ہونا امت میں مسلم امر چلا آ رہا ہے اور ان میں سے ہر ایک کے اجتہادات پر امت کا اچھا خاصا حصہ عمل کرتا چلا آ رہا ہے۔ جس مسئلے میں ان حضرات کا اختلاف ہو اس میں یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ یہاں اجتہاد کی سرے سے منجانش ہی نہیں تھی۔

اگر کسی مسئلے میں تمام فقهاء ایک طرف ہوں، صرف ایک آدھ کا اختلاف منقول ہو تو اس اختلاف کو شرعاً معتبر سمجھا جائے گا یا نہیں، اس میں ابن الہمامؓ نے شش الائمه سرخی

اور ابوکر رازی کا جو قول نقل کیا ہے اور خود بھی جسے اختیار کیا ہے یہ ہے کہ اگر اس ایک فقیر کے اجتہاد کو سائیع قرار دیا گیا ہے یعنی یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ اس میں اجتہاد کی گنجائش تھی تو مسئلہ مجتہد فیہ بن جائے گا وگرنہ نہیں۔^(۳۰) ظاہر ہے کہ ان ائمہ کو تلقی بالقبول حاصل ہو جانا تو سیغت اجتہاد کی بہت بڑی علامت ہے۔

پھر ائمہ اربعہ کے کسی قول میں کتاب اللہ، سنت مشہورہ یا اجماع کے قطعاً خلاف ہونے کا جتنا اختلاف ہو سکتا ہے اس سے زیادہ اختلاف اس بات کا ہے کہ کسی قول کی طرف ایسی مخالفت کی نسبت بذات خود غلط ہو اور حقیقت میں وہ قول اولہ نذکورہ کے یقینی طور پر خلاف نہ ہو، بلکہ اس میں بھی فرق صرف راجح مرجوح کا ہو اور یہ صرف اختلاف ہی نہیں بلکہ عملاً ایسا ہوا ہے، مثلاً کوئی قول سنت مشہورہ کے خلاف ہو اس کی مثال میں قضاۓ یہیں دشائید کا مسئلہ ذکر کیا گیا ہے۔ امام ابوحنیفہ[ؓ] کے نزدیک مدی کے پاس ایک گواہ ہونے کی صورت میں مدی علیہ ہے قسم لی جائے گی، مدی سے دوسرے گواہ کی جگہ قسم لے کر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، جبکہ ائمہ ملائی (امام مالک[ؓ]، امام شافعی[ؓ] اور امام احمد[ؓ]) کے نزدیک مدی کے پاس ایک گواہ ہو اور ایک مرتبہ قسم کھالے تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ بہت سے حفیہ نے اس مسئلہ کو مجتہد فیہ میں شامل نہیں کیا اس بنیاد پر کہ یہ حدیث مشہور "البینة على المدعى واليمين على من انكر"[ؓ] کے خلاف ہے، لیکن اس مسئلے میں فریقین کے دلائل کا جائزہ لینے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں بھی عام اجتہادی مسائل کی طرح دونوں طرف دلیل موجود ہے اس لیے فرق راجح اور مرجوح ہی کا ہے، مثلاً جس طرح حفیہ کی ذکر کردہ حدیث کو مشہور قرار دیا گیا ہے اسی طرح ائمہ ملائی کی دلیل بھی حدیث مشہور ہے اس لیے کہ مولانا محمد تقی عثمانی کی حکملہ فتح الہم میں تحقیق کے مطابق اس موضوع پر پانچ صحابہ کی قابل استدلال روایات موجود ہیں، اگر ضعیف احادیث بھی ملا لی جائیں تو نو صحابہ کی احادیث بن جاتی ہیں۔^(۳۰)

حاصل یہ کہ کسی مسئلے میں جب ائمہ اربعہ کا اختلاف ہو جائے تو اسے بہر حال مجتہد فیہ سمجھنا چاہیے، الا یہ کہ خود اس فقہ کے قبیع علماء نے ہی اس قول کو اختیار نہ کیا ہو، ایسی حالت میں دلیل کا جائزہ لے کر غور کیا جا سکتا ہے۔

فتح القدر اور البحر الرائق میں المتنقی کے حوالے سے کسی مسئلے کے مجتہد فیہ ہونے کا ایک تیرا معیار ذکر کیا گیا ہے، وہ یہ کہ اس میں اصل مدار حقیقت اختلاف پائے جانے یا نہ پائے جانے پر نہیں بلکہ اشتباه دلیل پر ہے اس کی ذکر کردہ متعدد مثالوں میں سے ایک مثال یہ ہے کہ کسی قاضی نے ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی پر حد یا قصاص کا فیصلہ کر دیا۔ (بجہ خفیہ بلکہ ائمہ اربعہ کے نزدیک حدود و قصاص میں عورت کی گواہی معتبر نہیں) تو وہ فیصلہ نافذ ہوگا۔ ابن الہام المتنقی سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس قضاء کو مسئلہ کے مختلف فیہ ہونے کی وجہ سے نافذ قرار نہیں دیا گیا، بلکہ اس کی اصل وجہ دلیل میں اشتباه ہے، اس لیے کہ آیت قرآنیہ میں ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی کو معتبر قرار دیا گیا ہے۔

وَاسْتَشْهِدُوْ شَهِيدِيْنَ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رِجَالٍ فَرِجْلٌ وَامْرَأَانٌ۔ (۱)

یہ آیت اگرچہ مالی معاملات کے بارے میں ہے، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ اصل اعتبار الفاظ کے عموم کا ہوتا ہے، لہذا یہ آیت ہر جگہ عورت کی گواہی کے معتبر ہونے پر دلالت کر رہی ہے، اور کوئی دوسری نص قطعی ایسی موجود نہیں ہے جس سے حد یا قصاص میں عورت کی گواہی کا غیر معتبر ہونا معلوم ہوتا ہو، چونکہ اس طرح یہاں اس گواہی کے معتبر ہونے پر بھی استدلال کیا جا سکتا ہے۔ (قطع نظر اس سے کہ دلیل کا زیادہ وزن کس طرف ہے) اس لیے یہ مجتہد فیہ ہے۔ (۲)

المتنقی کی اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی مسئلے میں اختلاف منقول نہ ہو، لیکن دلیل میں اشتباه ہو کہ دونوں طرف دلیل قائم کی جا سکتی ہے اور کوئی پہلو بھی دلیل قطعی سے ثابت نہ ہو تو وہ مسئلہ بھی مجتہد فیہ سمجھا جائے گا، لیکن بات قدوری وغیرہ کی اوپر ذکر کردہ عبارت سے بھی اخذ کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر فیصلہ کتاب، سنت مشہورہ یا اجماع کے خلاف نہ ہو اور وہ قول بالکل بلا دلیل بھی نہ ہو تو وہ نافذ ہوگا۔ اس مسئلے میں فقهاء کا اختلاف منقول ہونے کی شرط نہیں لگائی گئی اور یہ ممکن ہے کہ کسی مسئلے میں فقهاء کا اختلاف بھی منقول نہ ہو اور وہ مسئلہ اجماعی بھی نہ ہو، اس طرح سے کہ دوسرے فقهاء نے اس مسئلہ سے کسی وجہ سے تعریض ہی نہ کیا ہو۔

المتنقی کی مذکورہ عبارت سے ابن الہام نے اس بات پر بھی استدلال کیا ہے کہ

جس مسئلے میں امام مالک "اور امام شافعی" کا اختلاف ہو وہ مجتہد فیہ ہی ہوگا، اس لیے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ مسئلے میں ان حضرات کا اختلاف تو ہو لیکن دلیل میں کوئی استباہ نہ ہو، بلکہ دلیل واضح طور پر صرف ایک طرف ہی جا رہی ہو۔ (۳۳)

اب تک جو کچھ عرض کیا گیا ہے اس کا حاصل یہ ہلتا ہے کہ کسی مسئلے میں ائمہ اربعہ کے درمیان اختلاف موجود ہو تو اسے مجتہد فیہ ہی تسلیم کر لینا چاہیے، دلیل کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں (اس قاعدے میں استثناء کرنا بھی ہو تو صرف متذکر التعمیہ عادما جیسے مسئلے کا کیا جا سکتا ہے جو کہ انتہائی نادر صورت ہوگی) البتہ اگر کسی مسئلے میں ائمہ اربعہ کا اتفاق ہو تو اسے مجتہد فیہ قرار دینے کے لیے درج ذیل امور کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔

- ۱۔ کسی مسلم فقیہ سے اس قول کا ثبوت کیا ہے، اگر وہ قول صحیح طریقے سے ثابت نہیں تو محض اس شخصیت کے اختلاف کی وجہ سے مسئلے کو مجتہد فیہ قرار نہیں دیا جا سکتا، الا یہ کہ اس کے مجتہد فیہ ہونے کی کوئی اور وجہ موجود ہو۔

- ۲۔ شخصیت کے اس قول پر شدید انکار تو نہیں کیا گیا یا اس کے خلاف اجماع تو منعقد نہیں ہو گیا، اگر اس کے قول پر انکار کیا گیا ہے اور وہ قول دلائل واضح کے بھی خلاف ہے تو اس سے مسئلہ مجتہد فیہ نہیں بنے گا، جیسے حضرت ابن عباسؓ کا ربا الفضل کے جواز کا قول، اس میں اگرچہ حضرت ابن عباسؓ کا رجوع ثابت ہے لیکن اگر رجوع ثابت نہ بھی ہو، تب بھی شاید اس اختلاف کی وجہ سے مسئلے کو مجتہد فیہ قرار دینا مشکل ہوتا۔

- ۳۔ کہیں وہ قول کتاب اللہ کی واضح نص یا حدیث مشہور کے واضح طور پر خلاف تو نہیں ہے اگر ایسا ہے تو بھی اس سے مسئلہ مجتہد فیہ نہیں بنے گا۔
- ۴۔ کہیں وہ قول بالکل بلا دلیل تو نہیں، اگر ایسا ہے تب بھی اس سے مسئلہ مجتہد فیہ نہیں بنے گا۔ اور اگر کسی مسلم فقیہ جیسے مشہور صحابہ، تابعین اوزاعی، لیث بن سعد، ابو ثور، قرقنی، ابن جریر طبری وغیرہ کا اختلاف صحیح طور پر ثابت ہے، وہ قول بالکل بلا دلیل بھی نہیں ہے، کتاب اللہ یا حدیث مشہور یا اجماع کے واضح طور پر مخالف بھی نہیں ہے تو اس کی وجہ سے وہ مسئلہ مجتہد فیہ بن جائے گا۔

اور اگر وہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں فقہ حنفی کے ساتھ کسی کا اختلاف اگرچہ منقول نہیں لیکن یہ بات واضح ہے کہ فقہ حنفی کا وہ مسئلہ کسی نص پر بنی نہیں محس قیاس یا احسان پر بنی ہے اور اس کے خلاف بھی دلیل کی سمجھائش موجود ہے تو المتفقی کی عبارت کے مطابق ایسا مسئلہ بھی مجہد فیہ ہی متصور ہوگا، اس کی مثال باکرہ عورت کے خیار بلوغ باطل ہونے کی وہ صورتیں ہیں جو فقہ حنفی کی کتابوں میں مذکور ہیں، مثلاً یہ کہ ہالن ہونے کے بعد یا نکاح کا علم ہو جانے کے بعد اس کا معمولی سا سکوت بھی اس اختیار کو ختم کر دیتا ہے، نیز یہ کہ جس طرح خیار بلوغ کے مسئلہ میں باندی کی مسئلہ سے تاداقیت عذر ہے یہاں عذر نہیں، اسی طرح خیار بلوغ کے استعمال کے لیے قضاۃ قاضی کا شرط ہوتا، اس لیے کہ یہ مسئلے کسی نص پر بنی نہیں محس قیاسی ہیں اور دلیل ایسی واضح نہیں ہے کہ اس میں کلام کی سمجھائش ہی نہ ہو، جیسا کہ آگے خیار بلوغ پر گفتگو کے دوران واضح ہو جائے گا، دوسرے ائمہ سے اختلاف منقول نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جس صورت میں حنفیہ کے نزدیک خیار بلوغ ملتا ہے، یعنی باپ دادا کے علاوہ کسی اور ولی نے نکاح کرایا ہو اس میں ان کے ہاں سرے سے نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا۔

خلاصہ یہ کہ یہاں کل تین صورتیں بنتی ہیں:

- ۱۔ کسی مسئلے میں ائمہ اربعہ کا اختلاف ہو، ایسا مسئلہ بہرحال مجہد فیہ سمجھا جائے گا۔
- ۲۔ ائمہ اربعہ کا اختلاف تو نہ ہو، لیکن دیگر بعض مسلم فقهاء کا اختلاف منقول ہو، اس صورت میں پہلے ذکر کردہ امور پر بڑی اختیاط کے ساتھ غور کر کے ہی مسئلے کو مجہد فیہ قرار دینا چاہیے۔
- ۳۔ مسئلے میں کوئی اختلاف تو منقول نہ ہو، لیکن وہ مسئلہ اجماعی بھی نہ ہو اور دلیل میں اشتباه بھی موجود ہو، اس صورت میں بھی مسئلہ کو مجہد فیہ قرار دیا جائے گا۔ خاص طور پر جبکہ مسئلے میں کوئی نص موجود نہ ہو، البتہ دوسری اور تیسری صورت میں مسئلے کو اجتہادی قرار دینے میں بہت اختیاط کی ضرورت ہے، خصوصاً جبکہ مسئلہ منصوص بھی ہو، اگرچہ نص خبر واحد ہی کے درجے میں ہو، ان میں سلامتی کا راستہ یہ ہے کہ افرادی رائے پر اعتماد کرنے کی بجائے اہل علم کی اجماعی رائے اور مشاورت کا اہتمام کیا جائے۔

یہاں اس بات کی طرف بھی توجہ دلانا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کسی مسئلے کے مجتہد فیہ ہونے پر دو عملی شرے مرتب ہوتے ہیں، ایک یہ کہ اس میں قضا، قاضی رافع نزاع ہوتی ہے دوسرے یہ کہ ضرورت شدیدہ یا حاجیع عامل کی وجہ سے دوسرا قول اختیار کرنے کی منجائش ہوتی ہے، یہاں جو گفتگو کی گئی ہے وہ صرف پہلے شرے کے اعتبار سے ہے، دوسرے شرے کے ترتیب کے لیے مرید شرائط بھی ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ ایک مسئلہ ایسا ہو کہ اس میں قضا، قاضی رافع نزاع تو ہو لیکن فی نفسہ وہ قول اتنا ضعیف ہو کہ اس پر فتویٰ دینا مشکل ہو جیسے متروک الحرمہ عامل میں امام شافعیؓ کا قول، یہ بھی ذہن میں رہے کہ مذکورہ بحث صرف نفاذ کی حد تک ہے یعنی اگر کوئی حاکم ایسا حکم دے دے یا قاضی ایسا فیصلہ کر دے تو وہ نافذ ہو جائے گا، لیکن حاکم یا قاضی کو کون کی حالت میں کون سا قول اختیار کرنا چاہیے اور کون سا نہیں۔ اس سے بحث یہاں مقصود نہیں، دوسرے لفظوں میں یہاں بحث نفاذ کی ہو رہی ہے جواز عدم جواز کی نہیں۔

چند متعلقہ قانونی دفعات کا جائزہ

قانون انساخ نکاح مسلمان ۱۹۳۹ء کی دفعہ نمبر ۷ میں ان وجوہات (Grounds) کا ذکر کیا گیا ہے جن کی بنیاد پر کسی عورت کو فتح نکاح کا حق حاصل ہوتا ہے، ان میں سے بعض تو فقہ ختنی کے بھی مطابق ہیں مثلاً خاوند کا عنین ہونا، بعض شقیں صراحت شریعت سے متصادم ہیں اور کسی فقیہ کے قول کے مطابق بھی درست نہیں، جیسے نکاح ٹانی کی وجہ سے پہلی بیوی کو تفتخ نکاح کا حق دیتا،^(☆) بعض وجوہات اگرچہ فقہ ختنی کے مطابق نہیں ہیں لیکن مجتہد فیہ سائل کے بارے میں اوپر ذکر کیے گئے اصولوں کی روشنی میں اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی مسلمان بچ ان کی بنیاد پر نکاح فتح کر دے تو وہ فتح متصور ہو گا یا نہیں، اس سلسلے میں دو مسئللوں پر ذرا تفصیل سے روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے۔ ایک خیار بلوغ کا مسئلہ، دوسرے شوہر کی طرف سے بیوی کو زد و کوب وغیرہ یا باہمی منافرت کی

(☆) قانون انساخ نکاح مسلمان میں اس طرح کی کوئی شق نہیں جس کی زد سے نکاح ٹانی کی وجہ سے پہلی بیوی کو تفتخ نکاح کا حق دیا گیا ہو۔

جب سے فتح نکاح کا مسئلہ، اس لیے کہ اہل افشاء کے سامنے زیادہ تر سوالات انہی بنیادوں پر کیے گئے فیصلوں کے بارے میں آ رہے ہیں۔

خیارِ بلوغ

ائمه ملاش کے نزدیک اگر باپ اپنی نابالغہ باکرہ بیٹی کا نکاح کر دے تو وہ منعقد ہو جاتا ہے اور اسے بالغ ہونے پر خیار بلوغ بھی حاصل نہیں ہوتا، باپ کے علاوہ کسی اور ولی کی طرف سے کرایا گیا نابالغہ کا نکاح سرے سے منعقد ہی نہیں ہوتا لہذا خیار بلوغ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، امام شافعی[ؒ] کے نزدیک دادا بھی باپ ہی کے حکم میں ہے۔

حفیہ کے ہاں اس مسئلے میں ذرا تفصیل ہے وہ یہ کہ نکاح کرانے والا ولی اگر باپ دادا کے علاوہ ہے تو غیر کفو یا مہر مثلى سے کم پر نکاح کی صورت میں نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔ صاحبین کے نزدیک ہر میں غین فاحش کی حد تک فرق ہو تو باپ یا دادا کا کرایا ہوا نکاح بھی منعقد نہیں ہوتا۔ اگر نکاح کفو میں مہر مثلى یا لڑکی کا اس سے زیادہ اور لڑکے کا اس سے کم پر ہوا تو نکاح تو منعقد ہو جائے گا لیکن نابالغ یا نابالغہ کو بالغ ہونے پر خیار بلوغ ملے گا، اور نکاح باپ یا دادا نے کرایا ہو تو نکاح بھی منعقد ہو جائے گا اور خیار بلوغ بھی نہیں ملے گا، البتہ ایک صورت اس سے مستثنیٰ کی گئی ہے وہ یہ کہ باپ یا دادا معروف بسوہ الاختیار ہو اس صورت میں ایک قول کے مطابق نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔ اور دوسرے کے مطابق منعقد تو ہو جائے گا، لیکن بالغ ہونے پر خیار ملے گا۔ سوہ الاختیار کی تفسیر میں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ نے ترجیح اس کو دی ہے کہ حالات و واقعات سے یہ یقین ہو جائے کہ باپ یا دادا نے یہ رشتہ کرتے وقت لڑکی کا مفاد پیش نظر نہیں رکھا بلکہ اپنی کسی غرض یا حماقت کی وجہ سے ایسا کیا ہے۔^(۳۴)

حکیم الامت حضرت حناظی[ؒ] کا فتویٰ بھی اسی طرح ہے۔^(۳۵)

مسئلے کی اس اجتماعی وضاحت کے بعد اب متعلقہ قانون اور عدالتی فیصلوں کا شرعی نقطہ نظر سے جائزہ لیا جاتا ہے۔

قانون انسانیخ ازدواج مسلمانوں کی دفعہ نمبر ۲ کی ذیلی شق (vii) اس مسئلے سے تعلق

رکتی ہے پہلے اس کے متن اور ترجیح پر نظر ڈال لینا مناسب ہے۔

(vii) that she, having been given in marriage by her father or other guardian before she attained the age of sixteen years repudiated the marriage before attaining the age of eighteen years: Provided that the marriage has not been consummated.

ترجمہ

(vii) کہ اس نے، جس کی شادی اس کے سولہ سال کی عمر کو پہنچنے سے قبل اس کے باپ یا دیگر سرپرست نے کر دی تھی، اخمارہ سال کی عمر کو پہنچنے سے قبل شادی کو رد کر دیا تھا۔ مگر شرط یہ ہے کہ ابھی تک خصتی نہیں ہوئی تھی۔ قانون میں marriage not comsummated کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جن کا مفہوم ہے کہ بشرطیکہ ان کے درمیان خلوت صحیح نہ ہوئی ہو۔ سولہ سال سے کم عمر میں شادی کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ لڑکی بالغ ہو بھی ہو مثلاً اسے ماہواری آنے لگ گئی ہو، اسکی لڑکی باقاق فتحاء بالغ ہے، لہذا اس کے بارے میں مذکورہ قانونی دفعہ بالکل خلاف شریعت اور شرعاً کالعدم ہے، اسکی صورت میں اس قانون کے مطابق دیے گئے فیصلے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوگی، دوسری صورت یہ کہ لڑکی کو ابھی ماہواری شروع نہیں ہوئی، مثلاً ابھائی کم عمری یا شیر خوارگی ہی میں نکاح کرا دیا گیا ہے، اور مثلاً آج کل زیادہ تر یہی صورت پیش آتی ہے، اس کے بارے میں چند باتیں قابل نور معلوم ہوتی ہیں۔

سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس قانون کے مطابق باپ یا دادا کے نکاح میں بھی خیار بلوغ حاصل ہے، جبکہ خفیہ کے نزدیک سئی الاختیار نہ ہونے کی صورت میں خیار بلوغ حاصل نہیں ہوتا، دوسرے انتہ کے نزدیک باپ نے نکاح کرایا ہو تو دیسے ہی خیار بلوغ نہیں ہوتا، کویا باپ کے بارے میں سوہ الاختیار نہ ہونے کی صورت میں نکاح کے لازم

ہونے پر ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ قائل غور ہے کہ یہ مسئلہ مجتہد فیہ ہے یا نہیں، چند باتیں ایسی ہیں جن سے مسئلہ کے مجتہد فیہ ہونے کی طرف ہرجان ہو رہا ہے۔

-- اس مسئلے میں بعض حضرات کا اختلاف بھی منقول ہے۔ گویا یہ مسئلہ اجماعی نہیں ہے، جیسا کہ درج ذیل اقوال سے معلوم ہوتا ہے:

۱۔ مصنف عبدالرزاق میں ہے:

عبدالرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: إذا أنكح الصغيرين أبوهما

منهما بالخيار إذا كبروا^(۶)

اس سے معلوم ہوا کہ طاؤس کے نزدیک نابالغ یا نابالغ کا نکاح باپ نے کرایا ہو تب بھی خیار بلوغ حاصل ہوگا۔

۲۔ مصنف عبدالرزاق ہی میں ہے:

عبدالرزاق عن التوری عن ابن شبرمة. قال: الصغيران بالخيار إذا أدر كا^(۷)

اس میں ابن شبرمه نے نابالغ لڑکے اور لڑکی کو مطلقاً خیار بلوغ دیا ہے۔ والد اور غیر والد میں فرق نہیں کیا جبکہ اکثر دیشتر نکاح کرنے والا خود والد ہی ہوتا ہے، دوسری صورت کافی کم پائی جاتی ہے۔

۳۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے:

حدثنا مطری عن الحكم عن شریع قال: إذا زوج الرجل ابنته او ابنته فالخيار

لهما إذا شبا^(۸)

اس سے قاضی شریع کا نہب بھی یہی معلوم ہوا کہ نابالغی کے نکاح میں خیار بلوغ ملتا ہے۔ اگرچہ نکاح کرانے والا والد ہی ہو، قاضی شریع بڑے درجے کے تابعین میں سے ہیں، بلکہ ان کا شمار ان کبار تابعین میں ہوتا ہے جن کے اقوال کو اقوال صحابہ کے ساتھ ملحق قرار دیا گیا ہے، خلافیت راشدہ کے معروف قاضی ہیں جنہیں حضرت عمرؓ نے اس منصب پر فائز کیا، فاروقی، عثمانی اور علوی ادوار میں مسلسل اس منصب پر فائز رہے ہیں۔

ذکورہ اقوال سے معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ ابتداء ہی سے مختلف فیہ رہا ہے، باپ کے

کرائے ہوئے نکاح کے لازم ہونے پر اگرچہ ابن المدیر نے اجماع نقل کیا ہے۔

لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ ابن المدیر اجماع نقل کرنے میں کافی تسامع سے کام لے لیتے ہیں، جہور کے قول کو بھی بعض اوقات اجماع قرار دے دیتے ہیں۔ بھی وجہ ہے کہ فقهاء حفیہ میں سے سرخی وغیرہ کے کلام سے بھی اس مسئلے کا اجہائی نہ ہوتا معلوم ہوتا ہے۔^(۲۹)

اگر مجتہد فیہ مسئلہ کی وہ تعریف پیش نظر رکھیں جو قدوری، کنز اور اکثر متون میں ذکر کی گئی ہے کہ وہ قول کتاب، سنت مشہورہ اور اجماع کے خلاف نہ ہو یا ^{المشقی} کی عبارت لی جائے جس میں مدار استھانہ دلیل کو بنا لیا گیا ہے تو بھی رحجان مسئلہ کے مجتہد فیہ ہونے ہی کی طرف ہوتا ہے، اس لیے کہ باپ یا دادا کے نکاح میں خیار بلوغ نہ ملنے کی ایک دلیل تو یہ ذکر کی جاتی ہے کہ حضرت عائشہؓ کا نکاح چھ سال کی عمر میں حضرت ابو بکر صدیقؓ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کرایا اور بالغ ہونے کے بعد آپ نے انہیں خیار بلوغ نہیں دیا، معلوم ہوا کہ انہیں خیار بلوغ حاصل ہی نہیں تھا، اس دلیل کی صحت کا اگرچہ بالکلیہ انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن اسے ایسی واضح دلیل بھی قرار نہیں دیا جا سکتا ہے کہ اس کی مخالفت سنت مشہورہ کی مخالفت کے برابر ہو، اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خیار بلوغ ذکر نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کا کوئی خاص داعی موجود نہیں تھا، حضرت عائشہؓ کے بارے میں سو فیصد یقین تھا کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رفات پر راضی اور مطمئن ہیں۔ دلیل واضح تب ہوتی جبکہ حضرت عائشہؓ کی طرف سے تاپنڈیگی کے امکانات ہوتے پھر بھی آپ خیار بلوغ نہ دیتے، ازواج مطہرات کو تحریر دیتے جانے کے موقع پر صورت حال اس سے مختلف تھی، ایک تو ازواج مطہرات کی طرف سے نفقہ میں اضافہ کا مطالبہ سامنے آ جکا تھا۔ دوسرے وہاں خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی ازواج مطہرات کو اختیار دینے کا آپ کو امر فرمایا گیا تھا، اس کے علاوہ فقهاء حفیہ نے قیاسی دلیل یہ ذکر فرمائی ہے کہ والد اور دادا میں چونکہ شفقت کامل ہوتی ہے اس لیے یہاں اختیار کی ضرورت نہیں، لیکن اس کے بارے میں شاید یہ کہنے کی بھی مجنحاش ہو کہ یہ شفقت تو بالغ کے حق میں بھی موجود ہے وہاں باپ یا دادا کا نکاح لازم نہیں ہوتا، اس سے اندازہ

ہوتا ہے کہ باپ یا دادا کے علاوہ میں جو خیار ملتا ہے اس کا مدار محض شفقت کی کمی نہیں بلکہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اصل میں نکاح کے لیے لڑکے یا لڑکی کا اذن ضروری ہے لقولہ علیہ السلام الایم احق بنفسها من ولیها ولقولہ علیہ السلام والبکر تستاذن، لیکن یہاں نبالغ ہونے کی وجہ سے انہیں اپنے اور پر ولایت حاصل نہیں اس لیے ان کے اذن کا اعتبار نہیں، لیکن چونکہ بعض اوقات بہت مناسب رشتہ فوت ہونے کے ذر سے بلوغ تک انتظار بھی مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے نکاح کو تو منعقد قرار دے دیا گیا لیکن جب ان میں اپنے اور پر ولایت حاصل ہوئی تو انہیں خیار بھی دے دیا گیا، دوسرے لفظوں میں یوں کہتے کہ ولی کی ولایت اجبار ختم ہو گئی ہے اس لیے اسے خیار ملے گا، اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ بالغ ہونے کے بعد خیار بلوغ کے استعمال میں ہمارے فقهاء نے وہی تفصیل پیش نظر رکھی ہے جو بلوغ کے بعد ابتداء نکاح میں ہوتی ہے کہ باکرہ کا تو محض سکوت اذن مستحور ہوتا ہے اور لڑکے یا شیبہ کے لیے صرخ یا عملی اذن کی ضرورت ہوتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہو کہ علامہ کاسانی نے بدائع الصنائع میں فرمایا ہے کہ قیاس کا مقتضاء یہ تھا کہ باپ یا دادا کا نکاح بھی لازم نہ ہو لیکن ہمارے فقهاء نے حضرت عائشہؓ کی حدیث کی وجہ سے احسان کیا ہے، صاحب بدائع کے الفاظ یہ ہیں:

إِلَى عَلَى أَنَّ الْأَقِيَas فِي إِنْكَاحِ الْأَبِ وَالْجَدِ أَنْ لَا يُلْزَمُ إِلَّا أَنْهُمْ اسْتَحْسَنُوا فِي
ذَلِكَ لِمَارُوِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَ عَائِشَةَ وَبَلَغَتْ
لَمْ يَعْلَمْهَا بِالْخِيَارِ بَعْدَ الْبَلُوغِ (۵۰)

صاحب بدائع کی اس عبارت سے معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ قیاسی بھی نہیں ہے، منصوص بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر خلاف قیاس منصوص مسئلہ ہوتا تو اسے مورد نص پر بند رکھا جاتا۔ دادا کی طرف اس حکم کا تقدیر نہ کیا جاتا بلکہ یہ مسئلہ ایسے احسان پر مبنی ہے جس کی تائید نص سے ہو رہی ہے۔

مذکورہ گفتگو کا مقصد دلیل کے ذریعے کسی جانب کو ترجیح دینا نہیں ہے، صرف یہ دکھانا ہے کہ باپ یا دادا کے نکاح میں خیار بلوغ نہ ملتا کسی ایسی قطعی یا قریب بے قطعی دلیل پر بیان نہیں ہے جس کی وجہ سے طاؤس، تقاضی شرخ اور این شہرمه کے مذکورہ اقوال کو بالکل

نظر انداز کر کے مسئلے کو غیر مجتہد نیزہ قرار دے دیا جائے، لہذا مسئلہ چونکہ مجتہد نہ ہے اس لیے باپ یا دادا کے کرانے ہوئے نکاح میں بھی قضاۃ قاضی یا حکم سلطان کی وجہ سے خیار بلوغ حاصل ہوگا۔

اہم بات یہ ہے کہ اس مسئلے میں اگر فقہاء کی عبارات کو مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ کہتا ہمیں بعید از قیاس معلوم نہیں ہوتا کہ موجودہ حالات میں خود فقہاء حنفیہ کے مطابق بھی باپ یا دادا کا کرایا ہوا نکاح غیر لازم ہوتا چاہیے، اس لیے کہ فقہاء حنفیہ نے ان کے نکاح کو لازم قرار دینے کی علت دفور شفقت اور رائے کی درستگی کو قرار دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ائمہ نے اپنے دور کے حالات کے پیش نظر یہ محسوس کیا کہ باپ اور دادا کے بارے میں غالب توقع ہی ہے کہ وہ بچے یا بیگنی کے مفاد کو پیش نظر رکھ کر سوچ دیچاڑ کے بعد اس طرح کا فیصلہ کریں گے، چنانچہ اصل کتب مذہب میں سوہ اختیار والے استثناء کا بھی رقم الحروف کے ت accusative شیع کے مطابق کوئی ذکر نہیں ملتا، حتیٰ کہ قدوری، ہدایہ، بدائع اور بسوط سرضی وغیرہ کتابیں بھی اس استثناء سے خالی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تفصیل بعد کے مشائخ نے کی ہے۔ اس کی مزید تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ کنز وغیرہ میں ہے کہ باپ یا دادا نے صیرہ کافو میں کرا دیا تو نافذ و لازم ہو جائے گا، اس کے تحت صاحب بحر فرماتے ہیں:

اطلق في الأب والجد و قيده الشارحون وغيرهم بان لا يكون معروفاً بسوء

الاختیار (۵۱)

اس میں ”الشارحون وغيرهم“ کا لفظ بتا رہا ہے کہ اس مسئلے میں سوہ اختیار نہ ہونے کی قید بعد میں لگائی گئی ہے خود ائمہ مذہب سے منقول نہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مشائخ و فقہاء حنفیہ نے شفقت و حسن رائے والی علت کو نہیں اثابت کیا اس مسئلے میں بیانی اہمیت دی ہے اور ان کی نظر میں ائمہ مذہب کا قول ان مسائل میں سے ہے جو وجود و عدم وجود علت کے اعتبار سے حالات زمانے کے بدلتے رہتے ہیں۔ ایک وہ وقت تھا کہ لڑکی کی مصلحت دیکھنے بغیر بچپن میں نکاح کرا دیتا باپ یا دادا سے انتہائی بعد تھا، اس وقت نکاح لازم ہونے کا حکم بغیر کسی استثناء و

تقویٰ کے لگا دیا گیا، بعد میں مشائخ نے حالات میں تبدیلی محسوس فرمائی اور یہ خیال فرمایا کہ ائمہ کے پیش نظر جو حالات تھے اب وہ نہیں رہے، اب اصل علت یعنی دفور شفقت و آصابت رائے میں کافی کی آنے لگی ہے تو معروف بسوء الاختیار یا سیکر الاختیار کا اس حکم سے استثناء کر دیا، اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نکاح میں لڑکی یا لڑکے کے مفاد اور اس کی مصلحت کو پیش نظر رکھنا اس مسئلے کی ایک حقیقی بنیاد اور علت ہے جس پر طرداً و عکساً حکم کا مدار ہے۔

ہمارے زمانے میں بچپن کے نکاح میں سوء الاختیار ایک ظاہرہ عامہ بن چکا ہے، شاید ہی بچپن کا کوئی کوئی نکاح ایسا ہوتا ہو جس میں شخص لڑکی یا لڑکے کے مفاد کو پیش نظر رکھا جاتا ہو عموماً لڑکی کی زندگی اور اس کی قسمت کو کوئی خاندانی تباہ مٹھانے، کسی اور کا رشتہ حاصل کرنے یا کسی بڑے میان یا بڑی بی کے شوق سرپرستی اور اپنی زندگی ہی میں دوسری تیزی نسل کے معاملات نمٹا کر جانے کی خواہش جیسی چیزوں کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے۔ مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی لکھتے ہیں:

با شخص اس دور میں تو شاذ و نادر ہی کوئی اس سوء الاختیار سے بچا ہو، بڑے بڑے مشاہیر علماء اور مدعاوین تقدس و تقویٰ بھی اس میں مبتلا ہیں۔ (۵۲)

ایسے حالات میں خود فقہ حنفی کے اصولوں کے مطابق بھی شاید یہ عمومی حکم لگانے کی ضمیماً موجود ہو کہ باپ یا دادا کا کرایا ہوا نکاح اگر باطل نہیں تو کم از کم غیر لازم ضرور ہو گا۔ اور بالغ ہونے پر اسے خیار بلوغ حاصل ہو گا۔ خاص طور پر جبکہ اس کے ساتھ قضاۓ قاضی اور حکم حاکم بھی مل جائے اور مسئلہ مجتہد فیہ بھی ہے۔

خیار بلوغ کے لیے قضاۓ قاضی کی شرط

خیار بلوغ کے بارے میں دوسرا قابل غور مسئلہ یہ ہے کہ خیار بلوغ کے ذریعے نکاح فتح ہونے کے لیے قضاۓ قاضی شرط ہے، ہمارے فقہاء نے فرقت کے تیرہ اسباب ذکر کیے ہیں جن میں سے سات میں قضاۓ قاضی شرط ہے، جیسے مجبوب یا عنین ہونے کی وجہ سے فرقت، عدم کفاءت کی وجہ سے فرقت، انہیں میں خیار بلوغ بھی داخل ہے، چھ اسباب ایسے

ہیں جن کی وجہ سے فرقت کے لیے قضاۓ قضیٰ شرط نہیں ہے جن میں خیار عحق، جایں دارین کی وجہ سے فرقت وغیرہ داخل ہیں۔^(۵۲)

موجودہ قانونی صورت حال یہ ہے کہ خود قانون میں اس کے متعلق بہت واضح حکم موجود نہیں ہے، البتہ اعلیٰ عدالتون کے متعدد فیصلوں میں یہ کہا گیا ہے کہ لڑکی کے خیار بلوغ استعمال کرتے ہی نکاح خود بخود فتح ہو جائے گا، اس کے لیے عدالت سے رجوع کی ضرورت نہیں، البتہ اگر دوسری پارٹی اس کو فتح تسلیم نہیں کرتی تو معاملہ عدالت میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس صورت میں عدالت کا فیصلہ استقراری نویسیت (declaratory) کا ہوگا۔ گویا عدالت اب نکاح فتح نہیں کرے گی بلکہ فتح شدہ نکاح کا اعلان و استقرار کرے گی، چنانچہ لاہور ہائی کورٹ نے مز جنت کے کیس میں جنگ کے ڈسٹرکٹ چج کا ایک فیصلہ رد کرتے ہوئے تفصیل سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اسی فیصلے میں اس سے پہلے کے درج ذیل فیصلوں کا بھی حوالہ دیا گیا ہے جو اسی کے موافق ہیں:

☆ محمد بخش بناء سرکار نبی ایل ڈی ۱۹۵۰ء لاہور ۲۰۳

☆ سردار بانو بنا مسیف اللہ نبی ایل ڈی ۱۹۶۹ء لاہور ۲۲۸

☆ منی بنا محبیب خاں نبی ایل ڈی ۱۹۵۶ء لاہور ۳۰۳

چنانچہ اب بہت سے دکاء حضرات لوگوں کو یہی مشورہ دے رہے ہیں کہ اس مقصد کے لیے عدالت سے رجوع کی ضرورت نہیں، اس بنیاد پر قضاۓ قضیٰ کے بغیر لڑکی کا دوسری گھنگہ نکاح کر دیا جاتا ہے۔

اب یہاں قابل غور باتیں دو ہیں، ایک یہ کہ خیار بلوغ کے لیے قضاۓ قضیٰ کی شرط مجہد فیہ مسئلہ ہے یا نہیں، دوسرے عدالت کے اس عمومی فیصلے کی حیثیت کیا ہوگی۔ جبکہ خاص واقعے میں دعویٰ اور خصوصت نہیں پائی گئی، بلکہ ہائی کورٹ کے مذکورہ فیصلوں کا تقاضا یہ ہے کہ عدالتیں نکاح فتح کریں گی ہی نہیں بلکہ فتح قرار دیں گی، دونوں میں فرق یہ ہے کہ فتح کرنے کی صورت میں فیصلہ کے اثرات قضاۓ کے وقت سے شروع ہوں گے، لہذا قرار دینے کی صورت میں خیار بلوغ استعمال کرنے کے وقت سے شروع ہوں گے، لہذا درمیانی عرصہ میں زوجین میں سے کسی کے انتقال کی صورت میں توارث نہیں ہوگا جبکہ فقہاء

کی عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح فتح ہی قاضی کرے گا، گویا جس طرح کی قضاۓ قاضی نقیبی لحاظ سے ضروری ہے جزوی واقعہ کی سطح پر ہائی کورٹ کے فیصلے کی رو سے اس کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔

ان سوالوں کے جواب کے لیے اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ قضاۓ قاضی کی شرط لگانے کی علت کیا ہے اور کیا وہ علت یا مقصد مذکورہ صورت حال میں عدالتی فیصلوں سے حاصل ہوتا ہے یا نہیں، اس سلسلے میں سب سے واضح عبارت علامہ کاسانی کی ہے، وہ بدائع میں خیار بلوغ میں قضاۓ قاضی کی ضرورت اور خیار عتق میں اس کی عدم ضرورت کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

وجه الفرق أن أصل النكاح هلها ثابت و حكمه نافذ و إنما الغائب وصف
الكمال وهو صفة اللزوم فكان الفسخ من أحد الزوجين رفع الأصل بفوات
الوصف وفوات الوصف لا يوجب رفع الأصل لمافيته من جعل الأصل تبعاً
للوصف وليس له هذه الولاية وبه حاجة إلى ذلك فلا بد من رفعه إلى من له
الولاية العامة وهو القاضي ليرفع النكاح دفعاً لحاجة الصغير الذي بلغ ونظراً
له بخلاف خيار العتق لأن الملك ازداد عليها بالعقد ولها أن ترضى بالزيادة
فكان لها أن تدفع الزيادة ولا يمكن دفعها الا باندفاع ما كان ثابتاً فيند فع
الثابت ضرورة دفع الزيادة وهذا لا يمكن إذ ليس بعض الملك تابعاً لبعض
فلا تقع الحاجة إلى قضاۓ القاضی و نظیر الفصلين الرد بالعيوب قبل القبض و
بعدة أن الأول يثبت بدون قضاۓ القاضی والثانی لا يثبت عند عدم التراضی
منهما إلا بقضاء القاضی والله عزوجل أعلم.^(۵۲)

اس عبارت میں بیان کردہ علت کا حاصل یہ لکھا ہے کہ ثابت شدہ نکاح کو ختم کرنا جتنا بڑا فیصلہ ہے اس کی مناسبت سے سب میں اتنی طاقت نہیں ہے، اس کی کام تدارک ولایت عامہ کے ذریعے ہونا چاہیے، دوسرے فقہاء کی عبارات سے بھی یہی بات مستفادہ ہوتی ہے کہ سب فرقت میں ضعف ہے لہذا اس کی بنیاد پر ایک فریق کا فیصلہ الزام علی الغیر کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس ضعف کی تلائی قضاۓ قاضی سے ہو سکتی ہے، اس ضعف کی تشریع

میں ان حضرات کی تعمیرات کچھ مختلف ہیں، قضاۓ قاضی کا مقصد بہر حال یہ نہیں ہے کہ قاضی اس امر کا جائزہ لے گا کہ بہاں فتح نکاح کی ضرورت ہے یا نہیں کیونکہ یہ تو خالص لڑکے یا لڑکی کی رضامندی کا معاملہ ہے، جیسا کہ میاں بیوی کے لعan کر لینے کے بعد قاضی کو اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت بلکہ اجازت نہیں کہ بہاں نکاح فتح کرنا چاہیے یا نہیں۔ حاصل یہ کہ خیار بلوغ میں قضاۓ قاضی کی شرط نکانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس تفریق کو ولایت عامہ کی سند حاصل ہونی چاہیے تاکہ دوسرے فریق کو بھی اس کا پابند کیا جاسکے۔

اب اصل طریقہ تو بھی ہونا چاہیے کہ خیار بلوغ کا حق استعمال کرنے کے بعد نکاح فتح کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کیا جائے، عدالت نکاح فتح کر دے تو محیک اور اگر مذکورہ فیصلوں کی روشنی میں عدالت نکاح فتح نہیں کرتی لیکن گواہوں کی بنیاد پر اپنے خیال میں پہلے سے حاصل شدہ فتح کی توثیق کر دیتی ہے تب بھی ولایت عامہ کی طرف استناد بہر حال پایا گیا ہے اور خاص حادث میں دووی کے بعد ہوا ہے لہذا اس صورت میں نکاح فتح متصور ہوگا، اب اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں کہ مسئلہ مجتہد فیہ ہے یا نہیں۔

اور اگر کسی نے عدالت سے رجوع کیے بغیر مذکورہ عدالتی فیصلوں کی بنیاد پر خیار بلوغ استعمال کر کے دوسری جگہ نکاح کر لیا تو یہ نکاح صحیح ہوگا یا نہیں یا کسی کو عدالت سے بروقت داد ری کی توقع نہیں ہے اس بنیاد پر دوسری جگہ نکاح کرنے کا کیا حکم ہوگا، اس کے متعلق ہاصل خیال میں بھی آ رہا ہے۔ واللہ اعلم کہ اعلیٰ عدالتوں کے مذکورہ عمومی فیصلے اگر قانون کی حیثیت رکھتے ہیں اور پچھلی عدالتوں اس کی پابند ہیں تو اس اعلیٰ عدالت کی حدود (مثلاً صوبہ پنجاب) میں متعین واقعہ کے اندر الگ قضاۓ قاضی لازمی نہیں ہے لہذا لڑکی اگر دیائیہ مطمئن ہے کہ اس نے بروقت خیار بلوغ استعمال کر لیا تھا تو عدالت کی طرف رجوع کیے بغیر دوسری جگہ نکاح منعقد ہو جائے گا۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ اعلیٰ عدالتوں کے وہ عمومی فیصلے جو ماتحت عدالتوں کے لیے لازم اعمل ہوں وہ حکم سلطان کی طرح ہیں، ان کی وجہ سے سبب تفریق میں ضعف کی تلافی اور الزام علی الشیر کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ هذا ما ظهر لى والعلم عند الله العليم ورحم امراً نبهنى على ما وقعت فيه من خطأ أو زلل.

ضرر یا شفاق کی وجہ سے فتح نکاح

آج کل عدالتی فتح نکاح کے جو سوالات اہل افقاء کے پاس آ رہے ہیں ان میں کافی تعداد ایسے فیصلوں کی ہوتی ہے جن میں خاوند کی طرف سے بیوی کے ساتھ بے رحمانہ روایہ اور زد و کوب یا زوجین میں باہمی منافرت کی وجہ سے نکاح فتح کر دیا جاتا ہے، متعلقہ قانون کی دفعہ نمبر ۲ کی شق (viii) میں بھی خاوند کی طرف سے بے رحمی کے معاملے کی وجہ سے فتح نکاح کا اختیار دیا گیا ہے اور بے رحمی کی چند صورتیں بھی ذکر کی گئی ہیں، متعلقہ شق اور اس کا ترجمہ حب ذیل ہے:

- (viii) that the husband treats her with cruelty, that is to say.
- (a) habitually assaults her or makes her life miserable by cruelty of conduct even if such conduct does not amount to physical illtreatment, or
- (b) associates with women of evil repute or leads an infamous life, or
- (c) attempts to force her to lead an immoral life, or
- (d) disposes of her property or prevents her exercising her legal rights over it, or
- (e) obstructs her in the observance of her religious profession or practice, or
- (f) if he has more wives than one, does not treat her equitably in accordance with the injunctions of the Quran;
- (ix) on any other ground which is recognised as valid for the dissolution of marriages under Muslim Law.

”(viii) کہ شوہر اس کے ساتھ بے رحمی سے پیش آتا ہے یعنی کہ“
 (الف) اکثر اوقات اسے مارپیٹ کرتا ہے یا سنگ دلانے رویہ سے اس کی زندگی اجریں کرتا

- ہے، چاہے ایسا روئیہ جسمانی بدسلوکی کے مترادف نہ ہو، یا
- (ب) بُری شہرت کی عورتوں سے میل جوں رکتا ہے یا بدنام زندگی گزارتا ہے۔ یا
- (ج) اسے بدکاری کی زندگی برکرنے پر مجبور کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا
- (د) اس کی جائیداد فروخت کرتا ہے یا اس پر اس کے قانونی حقوق استعمال کرنے سے اُسے روکتا ہے۔ یا
- (ه) اس کے نہ ہی عقیدہ یا عمل پر کاربند ہونے میں اس کا مزاحم ہوتا ہے، یا
- (و) اگر اس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو اس سے قرآن کے احکام کی مطابقت میں منصفانہ سلوک نہیں کرتا۔
- (ix) کوئی دیگر وجہ جو اسلامی قانون کے تحت انسانخ ازدواج کے لیے جائز تسلیم کی جاتی ہو۔

حنفی، شافعیہ اور حنابلہ کے ہاں مذکورہ بالا بنیاد پر فتح نکاح کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا، البتہ مالکیہ کے ہاں اس سے لٹتے جلتے بعض احکام موجود ہیں جن کی تفصیل ذیل میں درج کی جا رہی ہے، جو عدالتی فیصلہ فقہ مالکی کے مطابق ہوگا وہ مجتہد فیہ مسئلے میں قضاۓ قاضی پائے جانے کی وجہ سے فقہ حنفی کی رو سے بھی ناقہ ہوگا، اور اگر وہ فیصلہ فقہ مالکی پر بھی پورا نہیں اُترتا تو وہ شرعاً غیر معترض ہوگا۔

مالکیہ کے ہاں اس مسئلے کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے ضرر کی شکایت عدالت میں کرتی ہے، اگر تو وہ اس شکایت کے باوجود رہنا خاوند کے ساتھ ہی چاہتی ہے تو قاضی خاوند کو تعیہ اور زجر کے ذریعے درست روئیہ اپنانے پر مجبور کرے گا، اس مقصد کے لیے قاضی ترتیب وار زبانی فہمائش، سزا کے ڈراوے اور ضرب سے کام لے گا اور اگر وہ تفریق کی بھی خواہش مند ہو تو اگر وہ اپنے دعویٰ پر شہادت شرعیہ پیش نہ کر سکے تو اس تفصیل کے مطابق دو ٹالک مقرر کیے جائیں گے جو آگے ”شقائق“ کے عنوان کے تحت آ رہی ہے، اور اگر وہ اپنے دعویٰ پر بینہ بھی پیش کر دے تو ایک قول کے مطابق قاضی خود ایک طلاق بائیں دے دے گا اور دوسرے قول کے مطابق عورت کو ایک طلاق بائیں واقع کرنے کا اختیار دے گا اور قاضی اس طلاق کی توثیق کر دے گا، گواہی ضرر کے صدور

پر کافی ہے، بار بار ضرر کے پائے جانے پر گواہی کی ضرورت نہیں۔

ضرر سے مراد کیا ہے، اس کی واضح تفسیر اور تعریف مالکیہ کی کتابوں سے نہیں مل سکی، البتہ ضرر کی چند مثالیں عموماً ذکر کی جاتی ہیں، اس سلسلے میں سے شرح مخ الجلیل علی مختصر غلیل کی عبارت نسبتہ زیادہ واضح ہے، جو حسب ذیل ہے:

(ولها) أى الزوجة (التطليق) جبراً على الزوج طلاقه واحدة تبين بها (ب)

سبب (الضرر) من الزوج لها كقطع كلامه عنها و توليه وجهه عنها في الفراش لامنها من حمام و تفرج على قطع الخليج والمحمل والكسوة والموكب أو تاديها على ترك حق الله تعالى كالصلوة و غسل الجنابة والتسرى والتزوج عليها.^(۵۵)

اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ خاوند کی طرف سے پہنچنے والی ایسی اذیت جس کی وجہ سے عورت کے لیے خاوند کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہو جائے ضرر میں داخل ہیں، مذکورہ عبارت میں اس کی دو مثالیں دی گئی ہیں ایک یہوی سے قطع کلامی کر لیتا، دوسراے بستر میں اس سے روگردانی اور اعراض کرنا، البتہ ایسا کام جس کا خاوند کو شرعاً حق حاصل ہے یا وہ شرعاً مطلوب ہے اگرچہ یہوی کو ناگوار ہی ہو ضرر میں داخل نہیں ہے، جیسے دوسرا نکاح کرنا، باندی سے جماع کرنا، اسے حمام میں جانے یا سیر سپائٹ سے روکنا، نماز یا غسل جنابت چھوڑنے پر (حدود شرع میں) تادیب کرنا وغیرہ۔

ضرب یعنی ایسے ضرر میں داخل ہے یا نہیں، در دیر کی درج ذیل عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ شرعی جواز کے بغیر مارنا یا شرعی جواز کے ساتھ لیکن شرعی حدود سے زیادہ مارنا بھی تعدی اور ضرر میں داخل ہے:

(وبتعديه) أى الزوج على الزوجة بضرب لغير موجب شرعى أو سب كلعن و

نحوه و ثبت ببينه أو اقرار (زجره الحكم وعظ فتهيد) إن لم يتزجر بالوعظ

(فضرب إن أفاد) الضرب أى ظن إفادته وإلا فلا وهذا إن اختارت البقاء معه

(ولها التطليق) بالتعدي إذا أبىت (وإن لم يذكر) التعدي منه عليها وليس من

الضرر منها من الحمام والنزاهة و ضربها ضرباً غير مبرح على ترك

الصلة و نحوها بخلاف المبرح كما تقدم.^(۵۶)

اب اس سلسلے میں فقة مالکی کی مزید کچھ عبارتیں پیش خدمت ہیں:

☆ شیخ الجلیل کی عبارت ضرر کے مفہوم کے سلسلے میں اور ذکر کی جا چکی ہے، مذکورہ عبارت سے آگے محمد علیش فرماتے ہیں:

ان شہدت بینۃ بالضرر و تکررہ بل (ولو لم تشهد بینۃ بتکررہ) ای ضرر بان شہدت بحصولہ مرة واحدة فلها التطبيق بها على المشهور لخبر لا ضرر ولا ضرار و يجری هناهل يطلقها الحاکم او يامرها به ثم يحكم قولان.^(۵۷)

☆ شرح الرقانی علی منظہر سیدی غلیل میں ہے:

(ولها التطبيق) طلاقہ و اعدۃ فقط و تكون بائنة (بالضرر) کقطع کلامہ عنہا و تولیة وجهہ عنہا فی الفراش لا منعہا من همام أو تادیبا علی الصلة والتسری والتزوج علیها و تراہات ان شہدت بینۃ باصل الضرر (ولو لم تشهد بینۃ بتکررہ) بل شہدت بانہ حصل منه لها مرة واحدة فلها التطبيق بها علی المشهور لخبر لا ضرر ولا ضرار ولا يخالف هذا قوله: و بعدهی زجره الحاکم، لأن الزجر حيث اختارت البقاء وما هنا حيث اختارت الفراق وبهذا یعلم أنه لا بد من إقامة البینۃ علی الضرر هناك قاله "يجری هنا هل يطلق او يما مراها به ثم يحكم قولان".^(۵۸)

فقہ مالکی کی مذکورہ بالتفصیل کا صرف اجتہادی مسئلے میں تقاضہ تقاضی کے حوالے سے ہی پیش نظر رہنا ضروری نہیں بلکہ اس لیے بھی یہ ضروری ہے کہ بعض اوقات ایسی صورت حال بھی پیش آ جاتی ہے کہ عورت کے لیے خاوند کا گمراہ ایک جنہم بن جاتا ہے، اس کا خاوند کے نکاح میں رہنا بہت سی دنیوی مشکلات اور دینی مفاسد کا باعث بن جاتا ہے اور عورت کی خاوند سے گلو خلاصی کی ضرورت واضح ہوتی ہے، فقة خنی کی رو سے اس عورت کے لیے کوئی تخلص نہیں ہوتا اور اس طرح کی صورت حال پیدا ہو جاتی ہے جس میں حکیم الامت حضرت تھانویؒ نے حیله ناجزہ میں مفتود، غائب غیر مفقود اور محسوس وغیرہ کے مسائل میں مالکیہ کے قول پر فتویٰ دیا تھا اور اس وقت کے تقریباً تمام اکابر علماء نے اس کی تصدیق و

تویش فرمائی تھی۔

شقاق کی وجہ سے خلع یا فتح نکاح

ہمارے ملک میں تقریباً ۱۹۶۷ء سے پہلیم کورٹ کے ایک مشہور فیصلے کی وجہ سے عام عدالتیں زوجین میں باہمی منافرت اور حدود اللہ قائم رکھنے کے عدم امکان کی بنیاد پر خاوند کی رضامندی کے بغیر ہی خلع کی ذگری جاری کرتے ہوئے نکاح کو فتح کر دیتی ہیں، اس طرح کے عدالتی فیصلے کسی بھی فقہ کے مطابق درست نہیں ہیں، اگر تو عورت شہادت شرعیہ کے ذریعے خاوند کی طرف سے تعدی اور ضرر ثابت کر دے تو اُپر مذکورہ تفصیل کے مطابق فیصلہ نافذ ہو جائے گا، خاوند کی زیادتی ثابت ہو جانے کے بعد خلع کی ضرورت نہیں رہتی۔ دیسے ہی فتح نکاح کافی ہے، خاوند کی زیادتی اور اس کی طرف سے تعدی ثابت نہ ہونے کی صورت میں محض باہمی منافرت دیکھ کر قاضی کے لیے خلع کا فیصلہ کرنا معروف فقهاء میں سے کسی کے ہاں بھی درست نہیں۔^(۵۴)

درحقیقت ہمارے مرجہ قانون اور عدالتی فیصلوں میں اس مغربی تصور کی جھلک نہیاں محسوس ہوتی ہے کہ مرد کی طرح عورت کو بھی طلاق کا حق حاصل ہونا چاہیے، اس لیے ایسا ہوتا رہتا ہے کہ عورت کے مطالبے کے بعد نکاح فتح کرتے ہوئے شرعی اصول میڈ نظر نہیں رہتے۔

محض زوجین کی باہمی منافرت کی وجہ سے فتح نکاح کا ختنی اور شافعی فہلوں میں تو کوئی تصور ہی نہیں، اسی طرح خلع کے بارے میں بھی ان فہلوں میں عدالت کا کوئی کردار نہیں ہے، البتہ فقہ ماکن میں ایک خاص طریق کار کے تحت مذکورہ بنیاد پر فتح نکاح ہو سکتا ہے، اس طریق کار کی بھی اجھا وضاحت یہاں آ جانا مناسب ہے۔

اگر زوجین میں اختلاف ہو جائے اور یہ پتہ چلانا مشکل ہو جائے کہ قصور وار کون ہے، یا عورت خاوند کی طرف سے تعدی اور ضرر کا بار بار دعویٰ اور ہٹکایت کرے لیکن اس پر بینہ اس کے پاس موجود نہ ہو تو قاضی انہیں قابل اعتماد نیک لوگوں کے درمیان ظہراۓ گا تاکہ وہ ان کے حالات کا جائزہ لے کر عدالت کو ہتھیبِ حوال سے آگاہ کریں اور عدالت اس

کے مطابق اصلاح احوال کے لیے مناسب کارروائی کرے، اس سے بھی اگر نزاع ختم نہ ہو تو قاضی فریقین کی طرف سے ایک ایک حکم (ثالث) مقرر کرے گا، یہ دونوں ثالث بھی اپنی طرف سے اصلاح کی پوری کوشش کریں گے۔ لیکن اگر وہ اس نتیجے پر بخوبی ہیں کہ دونوں میں نبہ مشکل ہے اور دونوں میں علیحدگی ہی میں مصلحت ہے تو وہ دونوں ثالث زوجین اور قاضی کی مرضی کے بغیر ایک طلاق یا خلع سے جیسے وہ مناسب بھیں تفریق بھی کر سکتے ہیں، ان دونوں میں مندرجہ ذیل شرطوں کا لحاظ رکھنا چاہیے:-
۱۔ حتی الامکان دونوں حکم دونوں کے خاندانوں سے ہوں، لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو تو اجنبی کو بھی حکم بنایا جا سکتا ہے۔

- ۲۔ بہتر یہ ہے کہ دونوں ان کے پڑوئی ہوں، اس لیے کہ انہیں حالات اور معاملات کو سمجھنا آسان ہوگا، لیکن یہ شرط انتہابی ہے وجوہی نہیں۔
۳۔ دونوں ایسے عادل ہوں کہ ان کی شہادت قول کی جاسکتی ہو، کسی ایک کے فاقہ ہونے کی صورت میں ان کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔

- ۴۔ مرد ہوں، عورت کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔
۵۔ سمجھ دار ہوں، سفیہ کا فیصلہ درست نہیں۔
۶۔ اس طرح کے مسائل کے متعلق شرعی احکام سمجھتے ہوں یا علماء سے مشورہ کر کے فیصلہ کریں، اگر دونوں نے یا ان میں سے کسی ایک نے جاہل ہوتے ہوئے علماء سے پوچھتے بغیر فیصلہ کر دیا تو وہ فیصلہ درست نہیں ہوگا۔

زوجین میں سے ہر ایک کی طرف سے الگ ثالث مقرر کرنا ان کا حق ہے جسے وہ چھوڑ بھی سکتے ہیں لہذا اگر دونوں ایک ہی شخص پر متفق ہو جائیں تو وہ بھی مذکورہ تفصیل کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے اور اس کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا۔

اگر عدالت سے رجوع کیے بغیر زوجین اپنے طور پر دو حکم مقرر کر لیں یا متفقہ طور پر ایک ہی شخص کو حکم تعلیم کر لیں تو مذکورہ تفصیل اور شرائط کے مطابق ان کا یا اس کا فیصلہ بھی نافذ ہو جائے گا۔

عدالت کے حکم سے دو ثالث مقرر کرنے سے قبل انہیں صالح لوگوں کے درمیان

ٹھہرانے کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ لازمی ہے یا اس کے بغیر بھی حکم مقرر کیے جاسکتے ہیں، اس کے متعلق راقم الحروف کو فقہ مالکی کی اپنے پاس موجود کتب میں کوئی واضح بات نہیں ملی البتہ بہت سی مالکی عبارات امکان میں قوم صالحین کے تذکرے سے خالی ہیں جیسا کہ آگے عبارت نمبر ۱، ۲، ۳، ۷ سے معلوم ہوگا۔ خود زوجین کے طرف سے حکم مقرر کرنے کی صورت میں بھی اس کو ضروری قرار نہیں دیا گیا، اس لیے عدالت اگر فریقین کی رضامندی سے حکم مقرر کرتی ہے تو بظاہر یہ امکان ضروری نہیں ہوتا چاہیے اگر زوج کے انکار کے باوجود مقرر کرتی ہے تو مسئلہ قابل غور ہے، اس پر غور کی ضرورت اس لیے ہے کہ موجودہ دور کی متعدد بالخصوص شہری زندگی میں اس کا التزام بہت مشکل بلکہ تقریباً ناممکن ہے، کیا اس بیان پر کہ بہت سی مالکی کتب بالخصوص متفقین کی عبارات اس شرط سے خالی ہیں اسے غیر لازم اور محض مستحب قرار دیا جا سکتا ہے یا کیا یہ کہنے کی گنجائش موجود ہے کہ اصل مقصد معاملے کی تکمیل پہنچا اور اصلاح احوال کی ہر ممکن کوشش کرنا ہے، اس لیے اگر ایک مرحلہ ممکن نہ ہو تو اگلے کی طرف ہی منتقل ہوتا پڑے گا اس لیے امکان میںصالحین اگر ممکن نہ ہو تو اس کے بغیر بھی حکم مقرر کرنا جائز ہوگا۔ کاتب سطور کو مالکی کتب سے عدم مزادت کی وجہ سے اس کے بارے میں جزم سے کچھ کہنا مشکل ہے، البتہ روحانی ایسی حالت میں امکان کے بغیر ہی حکم مقرر کرنے کی طرف ہو رہا ہے۔

اب مذکورہ طریقے کار کے متعلق فقہ مالکی کی چند عبارات بیش خدمت ہیں:

۱۔ موطا امام مالک میں پہلے تو حضرت علیؓ کا وہ اثر نقل کیا گیا ہے جس میں سورۃ النساء کی حکمین سے متعلقہ آیت کی تغیر کرتے ہوئے انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ دونوں نالشوں کو زوجین کا نکاح برقرار رکھنے یا تفریق کرنے کا اختیار ہے:

أَنْ إِيمَانُهُمَا الْفِرَقَةُ وَالْاجْتِمَاعُ

اس کے بعد امام مالک فرماتے ہیں:

وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْحُكْمَيْنِ يَجُوزُ قُولَهُمَا بَيْنَ الرَّجُلِ

وَامْرَأَتِهِ فِي الْفِرَقَةِ وَالْاجْتِمَاعِ۔ (۶۰)

۲۔ الشرح الصغير میں ہے:

(وإن أشكل) أمر فلم يعلم هلضرر منها أو منه بأن ادعتضرر و تكررت شكواها ولم يثبت ذلك أو ادعى كل منهاضرر و تكررت منه الشكوى ولم يكن له بينة (سكنها) العاكم أى أمر بسكنها (بين) قوم صالحين (إن لم تكن بينهم) ليظهر لهم الحال فيخبروا العاكم بذىضرر (ثم) إن استمر الاشكال والنزاع (بعث) العاكم (حكمين من أهلهما) أى حكما من أهله و حكما من أهلهان (امكنا) فإن لم يمكن فاجبب (وندب كونهما جارين) لأن الجار أدرى بحال الجار (وصحتهم) أى الحكمين أى شرط صحتهم بالعدالة فلا يصح حكم غير العدل سواء أه حكم بطلاق أو إبقاء أو بمال و غير العدل أو مجنون أو فاسق (والذكرة) فلا يصح حكم النساء (والرشد) فلا يصح حكم سفيه (والفقه بذلك) فلا يصح حكم جاهل بما ولـي فيه (و) يجب (عليهما الاصلاح) ما استطاعا ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينها (فإن تعذر) الاصلاح (طلقا) أى حكما بالطلاق (ونفذ) حكمهما ظاهراً و باطنـاً (وان لم يرضيا) أى الزوجان بحكمهما (أو) لم يرض (الحاكم به ولو كانا) أى الحكمان مقامين (من جهتهما) أى الزوجين فهو نافذ ولو لم يرض به الزوجان أو الحاكم فأولى إذا أقامهما الحكم (بواحدة) متعلق بطلاق.^(١)

٣- ارشاد السالك مع شرح أهل المدارك میں ہے:

”قال رحمة الله: وإذا قبح ما بينهما أمر المتعدد باز الله، فإن جهل بعث العاكم حكمين من إهله وإهلهما يحكمان بالإصلاح من صلح أو فراق فيمضي ما حكمما به“.^(٢)

٤- قاضي عبد الوهاب بغدادي (متوفى ١٣٢٢ھ) فرمـتـ ہـیـنـ:

إذا قبح ما بين الزوجين و ظهر الشقاق فإذا علم الإضرار من أحدهما أمر بـاز الله، فإن أشكل ذلك بـعـثـ العـاـكـمـ حـكـمـيـنـ: أحـدـهـماـ منـ أـهـلـ الزـوـجـ والإـخـرـ منـ أـهـلـ الـمـرـأـةـ عـدـلـيـنـ فـقـيـهـيـنـ فـيـنـظـرـانـ بـيـنـهـمـاـ وـيـجـتـهـدـانـ فـيـ الـإـصـلـاحـ إنـ تـمـكـنـاـ، فـإـنـ لـمـ يـقـدـرـ عـلـيـهـ وـرـأـيـاـ الـصـلـاحـ فـرـقـاـ بـيـنـهـمـاـ، فـإـنـ رـأـيـاـ أـنـ

يأخذ الله شيئاً من مالها ليكون خلعاً فعلاً، وكان ذلك لهم على طريق الحكم دون التوكيل والق حكم قاضى البلد أو خالقه، وإن لم يكن في أهلها من يهتدى لذلك جاز أن يكونا أجنبيين.^(٢٣)

٥- معروف ماكى متن مختصر سيدى خليل مىں ہے:

وبتعديه زجره الحكم و سكنها بين قوم صالحين، إن لم يكن بينهم، وإن أشكل بعث حكمين وإن لم يدخل بها، من أهلها إن أمكن، وندب كونهما جارين ، وبطل حكم غير العدل و سفيه وامرأة وغير فقيه بذلك و نفذ طلاقهما وإن لم يرض الزوجان والحاكم ولو كانوا من جهتهمما لإكثار من واحدة أوقعا.^(٢٤)

٦- من المختصر شرح مختصر خليل مىں ہے:

التي ابن لبابة وابن الوليد قاضيا اشتكت إليه امرأة ضرر زوجها ووكلات على مطالبته و عاودت الشكوى ببعث الحكمين إليها وقاله عبيد الله ابن يحيى بن تلوم واستقصاء نظر كذا في أحكام ابن زياد وفيها إذا أشكل على القاضى أمر الزوجين ولم يصل إلى معرفة الضار منها أرسل الحكمين قاله أىوب وابن وليد وفيها أيضا ترددت شكوى امرأة باضرار زوجها فهل أرسل الحكمين أو أرسلها إلى دار أمرين حتى أنهم كما كانت القضاة تفعل فهمنا سؤالك و نرى أن ترسل الحكمين كما قال الله تعالى لا يجوز غير ذلك لقول الله تعالى "وما كان لمومن ولا مؤمنة إذا قضى الله و رسوله أمراً أن تكون لهم الخيرة من أمرهم" قاله محمد ابن الوليد وقال أىوب بن سليمان قول أهل العلم في هذا كشف الحاكم أهل الخبر فيما من أهل الثقة والأمانة فإن أشكل الأمر ولم يجد له بياناً أرسل الحكمين.^(٢٥)

٧- المدوية الكنكري مىں ہے:

قال مالك: الامر الذى يكون فيه الحكمان إنما ذلك إذا فتح ما بين الرجل وأمراته حتى لا يشتبه بينهما وبينه ولا يستطيع أن يخلص إلى أمرهما فإذا بالغا

ذلك بعث الوالى رجلا من أهلها ورجلًا من أهله عدلين لنظر في أمرهما
واجتهدوا فان استطاعا الصلح أصلحا بينهما ولا فرقا بينهما ثم يجوز فرافقهما
دون الإمام وإن رأيا أن يأخذ من مالها حتى يكون خلعاً فعلا. (۲۱)

۸- المدوة هي میں ہے:

قلت: فإذا كان ذلك منهم إلى رجل واحد اجتمعوا عليه هل يكون بمنزلة
الحكمين لهم جميعاً (قال) نعم إنما هي من أمورهما التي لوأخذها دون من
يحكم فيها كان ذلك لهم جميعاً فكذلك هي إلى من جعلها إليه إذا كان
يسأهلاً أن يكون منهن يجعل ذلك إليه ليس بنصراني ولا بعد ولا صبي ولا
امرأة ولا سفهاء فهو لا يجوز منهم اثنان فكيف واحد. (۲۲)

مندرجہ بالا تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ زوجین میں باہمی منافرت کی وجہ سے
خلع یا طلاق میں عدالت کے کردار کے متعلق فقہ ماکی اور مرقبہ عدالتی طریق کار میں کتنا
زیادہ فرق ہے، عدالتی طریق کار میں منافرت کو ختم کرنے اور اصلاح ذات البین کی کوشش
کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ ابتداء ہی سے خلع کی بنیاد پر نکاح قائم کر دیا جاتا ہے، جبکہ فقہ
ماکی کی مذکورہ تفصیلات کے مطابق حتی الامکان اختلافات کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی
جائی ہے، اور یہی بات قرآنی مزاج کے مطابق ہے، جس میں اصل زور اصلاح احوال پر
دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے:

إِنَّ يَرِيدُ إِصْلَاحًا يُوقِنُ اللَّهُ بِينَهُمَا (النِّسَاء: ۳۵)

اصلاح ذات البین کے لیے زوجین کے موقف اور اختلافات کی اصل وجہ سے واقفیت
ضروری ہے، اس کے لیے یہ بات قطعاً غیر مناسب ہے کہ عدالت کے سامنے وہ ایک
دوسرے کے خلاف شکوئے شکایتوں کا ذکر کریں، اس کے لیے ایسے ہی اشخاص مناسب ہو
سکتے ہیں جن پر وہ دونوں اعتماد کرتے ہوں بلکہ ان کے خاندان سے ہوں۔
حاصل یہ کہ حکمین مقرر کرنے کا اصول بنیادی طور پر صلح صفائی کرنے کے لیے ہے،
حقیقت یہ ہے کہ زوجین میں باہمی چیقش عموماً انتہائی وقیٰ اور جذباتی نوعیت کی ہوتی ہے،
اس کی تھی میں کوئی حقیقی اور مستقل مسئلہ بہت کم ہوتا ہے اسی لیے طلاق واقع کرنے میں

زیادہ جلد پازی سے کام نہ لینے کی تعلیم دی گئی ہے، اس لیے اصولی طور پر یہ طریقہ بڑے ہوئے تعلقات کو سنوارنے کے لیے اختیار کیا گیا ہے اور اس حد تک حکمین کا اختیار اتفاقی اور اجھائی ہے، زوجین کی رضامندی کے بغیر طلاق واقع کرنا تو اصلاح سے مایوسی کی وجہ سے ایک تبادل طریقہ ہے جسے مالکیہ نے اور ایک روایت کے مطابق امام احمدؓ نے اختیار کیا ہے، اور بوقتِ ضرورت اہل علم و افقاء کی رائے اور مشاورت سے اسے اپنا لینے میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن ہماری عدالتوں کے مرجب طریق کار میں محض زوجین میں اختلاف و منافرت کے وجود ہی کو جو تفریق کا سبب بنا لیا گیا ہے وہ شرعی ولائل کے لحاظ سے درست نہیں۔

حوالہ جات

- ۱۔ مرغینانی: الہدایہ ۳/۱۳، مکتبہ مدینیہ، لاہور
- ۲۔ الصادی بلخی السالک را ای اقرب السالک: ۳۵۶۱، دارالفنون سال ایڈیشن غیر مذکور۔
- ۳۔ الزرقانی: شرح الزرقانی علی مختصر سیدی خلیل: ۹۳۳، دارالفنون بیروت ۱۹۷۸ء
- ۴۔ الشیرازی، المهدب مع الجموع: ۵/۲۲۷، دارالفنون سال وطبع غیر مذکور۔
- ۵۔ نووی، الجموع شرح المهدب: ۵/۲۲۹
- ۶۔ ابیهی السنن الکبریٰ۔
- ۷۔ الہدایہ مع فتح القدير ۶/۳۹۷، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ
- ۸۔ الحسنی: الدرالختار مع رد الدرالختار ۵/۸۰۸، ایج ایم سعید گھنی، کراچی
- ۹۔ ایضاً ۵/۱۶۳
- ۱۰۔ الصادی: جامع الفصولین ۱/۲۸
- ۱۱۔ ابن نجم: انحر الرائق ۷/۹۶، ایج ایم سعید، کراچی
- ۱۲۔ ابن الہمام: فتح القدر ۶/۳۹۷، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ
- ۱۳۔ قادری عاصیگریہ: ۳/۲۵۸
- ۱۴۔ طحاوی: حاجیہ الدرالختار: ۳/۱۹۸
- ۱۵۔ شای، ابن عابدین: رد الدرالختار: ۵/۸۰۸

- ١٦- شای، رد المحتار، ٣٩٨٥
- ١٧- ابن نجم، البحر الرائق، ٧٩
- ١٨- ابن نجم، البحر الرائق، ١٥٧
- ١٩- الحسکی: الدر الفار، ٣٩٥٥
- ٢٠- طحاوی: حاجیة الدر الفار، ١٩٩/٣
- ٢١- فتاوی عالجیریه، ٣٦٠/٣ نیز ملاحظہ ہو ابھر الرائق: ٨٢
- ٢٢- فتاوی عالجیریه، ٣٥٧/٣
- ٢٣- شای، رد المحتار، ٣٩٦/٥
- ٢٤- ملاحظہ ہو: البحر الرائق، ٨٢
- ٢٥- مختصر القدوری، ٢١٩ مکتبہ حنفی، مлан
- ٢٦- حلیہ ناجہ: ص ٣٣ دارالشاعت، کراچی ١٩٨٧ء
- ٢٧- شای: ٧٦١
- ٢٨- ایضاً
- ٢٩- فتاوی عالجیریه، ٣٥٦/٣
- ٣٠- ایضاً
- ٣١- ملاحظہ ہو: البحر الرائق، ٧٨
- ٣٢- الشعی، کنز الدقائق مع البحر الرائق، ٧٨
- ٣٣- ابن الہمام، فتح القدر، ٣٩٣٣/٦
- ٣٤- الأنعام: ١٢١
- ٣٥- ابن الہمام، فتح القدر، ٣٩٣٢/٢
- ٣٦- ابن نجم، البحر الرائق، ٧١٣
- ٣٧- الأولی، روح المعانی، ١٨ کتبہ امدادیہ، ملان
- ٣٨- الأولی، روح المعانی، ١٨ کتبہ امدادیہ، ملان
- ٣٩- ابن الہمام، فتح القدر، ٣٩٣٢/٦

- ۲۰۔ العقاني، محمد تقی، مکملہ فتح المیم ۱/۲
- ۲۱۔ البقرة: ۲۸۲
- ۲۲۔ ابن الہمام، فتح القدر ۲/۳۹۵، ۳۹۵۔ ابن نجم، الحمر الرائق ۷/۶
- ۲۳۔ ابن الہمام، فتح القدر: ۳۹۵/۶
- ۲۴۔ جواہر الفقہ: ۶۵/۲ مکتبہ دارالعلوم، کراچی ۱۴۰۳ھ
- ۲۵۔ امداد القناوی: ۲۲۷/۲
- ۲۶۔ عبدالرازاق: المصطف ۱۲۲/۶
- ۲۷۔ ایضاً
- ۲۸۔ ابن الی هبیہ، المصطف ۳۱/۳/۲ ادارۃ القرآن، کراچی ۱۹۸۶ء
- ۲۹۔ السرضی: المبسوط ۲/۲۱۲، ادارۃ القرآن، کراچی ۱۹۸۷ء
- ۳۰۔ الکاسانی، بداع الصنائع ۳۱۵/۲ مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ ۱۴۱۰ھ
- ۳۱۔ ابن نجم: الحمر الرائق
- ۳۲۔ حسن القناوی: ۱۱۶/۵
- ۳۳۔ الحمر الرائق: ۱۲۱/۳
- ۳۴۔ بداع الصنائع، ۳۱۶/۲
- ۳۵۔ محمد علیش: شرح مختصر الجلیل علی مختصر العلامۃ خلیل: ۱/۷۹/۲
- ۳۶۔ الدردی، القطب احمد: الشرح الصغیر: ۳۰۸/۱ دارالفکر
- ۳۷۔ محمد علیش: مختصر الجلیل: ۱/۷۹/۲
- ۳۸۔ الزرقانی: شرح مختصر سیدی خلیل: ۹۶/۳
- ۳۹۔ سپریم کورٹ کے جس فیصلے کی بنیاد پر عدالتیں اس طرح خلع کی ذگریاں دے رہی ہیں اس کے دلائل پر تبرے کے لیے شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کا مضمون ملاحظہ ہو جو جیلے ناجزہ مطبوعہ دارالاشاعت، کراچی کے آخر میں لگا ہوا ہے۔
- ۴۰۔ امام مالک: موطا امام مالک مع اوجز المسالک ۲۱۵/۱۰، مکتبہ امدادیہ، مکہ مکرمہ ۱۹۷۳ء
- ۴۱۔ الدردی: الشرح الصغیر ۳۰۸/۱

- ٦٢- الكناوى: أهل المدارك شرح إرشاد السالك: ١٣١/٢، دار الفكر
- ٦٣- البقداوى، عبد الوهاب: المعونة على منصب عالم المدينة: ٨٤٥/٢ المكتبة التجارية، مكة المكرمة.
- ٦٤- سيدى خليل: مختصر خليل مع نسخ الجليل: ١٧٨-٧٩/٢
- ٦٥- محمد علیش: نسخ الجليل: ١٢٧/٢
- ٦٦- حسون: المدونة الكبرى ٢٥٣/٢ مكتبة الرياض الحديثة
- ٦٧- المدونة الكبرى ٢٥٦/٢

